

دُعاؤں اور وظائف سے

گہری اور پریشانوں کا عمل

عربی • اردو • انگلش



سید ذیشان نظامی عفی عنہ



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دُعَاؤوں اور وظائف سے

گہری و پریشانیوں کا حل

SOLUTION OF APPREHENSIONS

عربی • اردو • انگلش

سید ذیشان نظامی عفی عنہ

دُعَاؤِ بِلٰی کِیْشَنز

آفیس: 10/10، بازار لاہور۔ فون: 042-37233585
E-mail: duapublications@yahoo.com



DUA PUBLICATIONS

”اے رب! میرے علم میں اضافہ فرما“
 ہماری کتابیں، معیاری کتابیں، پیاری کتابیں

حقوقِ اشاعت محفوظ

اشاعت:	اپریل ۲۰۱۱ء
نام کتاب:	گھریلو پریشانیوں کا حل
مرتب:	مولانا سید ذیشان نظامی عفی عنہ
انگلش:	محترم پروفیسر محمد عدیل اقبال
نظر ثانی:	محترم پروفیسر ملک محمد اشرف
اہتمام:	گولڈ سمٹھ نظامی جیولرز اینڈ سنز
تعاون:	محترم محمد اختر خان چیف ایڈمنسٹریٹر، ہمدرد یونیورسٹی
کمپوزنگ:	محترم محمد راشد حسین قادری رضوی پیرخانہ راجگان
ناشر:	النور پبلی کیشنز میر پور آزاد کشمیر

استمعوا: اللہ کے فضل و کرم اور مہربانی سے انسانی کوشش اور بساط کے مطابق کمپوزنگ طباعت اور پروف ریڈنگ اور جلد بندی میں ہر قسم کی احتیاط کی گئی ہے انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی سہواً غلطی رہ گئی ہو یا صفحات درست نہ ہوں یا اس کتاب میں عربی، اردو، انگلش کی لفظی غلطیاں ہوں تو براہ کرم مہربانی فرما کر مطلع کریں۔ تاکہ اگلے ایڈیشن میں درستگی کی جاسکے۔ ناشر
 جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا كَثِيرًا

فہرست

13	عرض مرتب	1
15	Author's Request	2
18	قارئین کیلئے ضروری ہدایات	3
21	Author's Appeal	4
24	مصیبت یا حادثہ کے وقت کی دعا PRAY (DUA) FOR THE TIME OF TENSION OR ACCIDENT	5
25	نورانیت حاصل کرنے کیلئے TO GET LIGHT/ BEAUTY	6
27	بیماری کے علاج کیلئے .. FOR THE TREATMENT OF ILLNESS / DISEASE	7
28	حاملہ عورت کی حفاظت کیلئے FOR THE SECURITY OF PREGNANT LADY	8
30	شادی کے مسئلوں کیلئے FOR THE PROBLEMS OF MARRIAGE	9
31	جامع استغفار COMPREHENSIVE PRACTICE(ASTAGHFAR)	10

33	آپ ﷺ کے پسندیدہ استغفار FAVOURITE ASTAGHFAR OF PROPHET MUHAMMAD ﷺ	11
34	مصیبت کے حل کیلئے FOR THE SOLUTION OF TENSION	12
35	مشینی اور ایٹمی دور کا جامع عمل COMPREHENSIVE PRACTICE OF MECHANICAL AND ATOMIC ERA	13
38	شادی کیلئے وظیفہ WAZIFA FOR MARRIAGE	14
40	محبت کیلئے وظیفہ WAZIFA FOR LOVE	15
41	تکبر سے بچنے کا وظیفہ WAZIFA FOR THE SURVIVAL OF ARROGANCE / SUPERIORITY	16
42	ظالم شخص سے بچنے کیلئے FOR THE SURVIVAL OF CRUEL PERSON	17
43	بچے کی پیدائش کیلئے FOR THE BIRTH OF CHILD	18
44	دشمن سے بچاؤ کیلئے FOR THE SURVIVAL OF ENEMY	19

45	اللہ کی رحمت کیلئے FOR THE BLESSINGS OF ALMIGHTY ALLAH	20
46	بیماریوں کے علاج کیلئے FOR THE TREATMENT OF DISEASES	21
48	آمدنی میں اضافہ کیلئے TO INCREASE EARNING/ INCOME	22
49	سانپ اور بچھو سے بچاؤ کیلئے FOR THE SURVIVAL OF SNAKE AND SCORPION	23
50	نقصان سے بچاؤ کیلئے FOR THE SURVIVAL OF DANGER/ RISK	24
51	شادی کے لئے وظیفہ WAZIFA FOR MARRIAGE	25
52	دوستی کرنے کیلئے وظیفہ WAZIFA FOR FRIENDSHIP	26
52	آمدنی میں اضافہ کیلئے وظیفہ WAZIFA FOR EARNING/ FOR THE EXPANSION IN INCOME	27
53	کاروبار میں اضافہ کیلئے وظیفہ WAZIFA FOR THE EXPANSION OF BUSINESS	28

54	بڑے عہدہ کیلئے وظیفہ WAZIFA FOR HIGHER POSTS	29
54	حاجت کیلئے وظیفہ WAZIFA FOR NEED / WANT (HAJAT)	30
55	لاپتہ/گمشدہ بچے کیلئے وظیفہ WAZIFA FOR THE LOSS OF CHILD	31
56	امتحان میں کامیابی کیلئے FOR THE SUCCESS IN EXAMS	32
56	اچھی صحت کیلئے FOR GOOD HEALTH	33
57	نئے کاروبار کی کامیابی کیلئے FOR THE SUCCESS OF NEW BUSINESS	34
58	حاجت کیلئے وظیفہ WAZIFA FOR NEED (HAJAT)	35
59	اطمینان و سکون کیلئے FOR SATISFACTION/ TO GET SATISFACTION AND PEACE	36
61	بخار کا علاج TREATMENT OF FEVER	37
62	ظالم شخص کیلئے وظیفہ WAZIFA FOR CRUEL PERSON	38
64	میاں بیوی میں اتفاق کیلئے FOR UNDERSTANDING AMONG HUSBAND AND WIFE	39

65	مقاصد کی تکمیل کے لئے وظیفہ WAZIFA FOR THE COMPLETION OF INTENTION/ MOTIVATION	40
67	بچے کی خواہش کیلئے FOR THE DESIRE OF SON	41
68	رزق کیلئے آزمودہ دعا BENEFICIAL DUA FOR EARNING (RIZK)	42
70	حضور ﷺ کی زیارت کیلئے FOR THE ZAYARAT OF PROPHET MUHAMMAD (Peace be upon him)	43
71	رزق کیلئے وظیفہ WAZIFA FOR EARNING (RIZK)	44
72	برکت و رحمت کیلئے دعا DUA FOR BLESSINGS	45
74	فائدہ مند عمل BENEFICIAL PRACTICE	46
76	بٹی کی شادی کیلئے FOR THE MARRIAGE OF DAUGHTER	47
77	برائے استخارہ FOR ISTIKHARA	48
78	جائز خواہشات کیلئے FOR VALID DESIRES	49

79	موزی بیماریوں سے بچاؤ کیلئے FOR THE SURVIVAL OF EXTREME AFFECTIONS	50
79	حاجت کا وظیفہ WAZIFA FOR NEED/WANT(HAJAT)	51
80	دنیا و آخرت میں نعمت کی خواہش کیلئے FOR THE DESIRE OF BLESSINGS IN THIS LIFE AND ETERNAL LIFE	52
81	آمدنی میں اضافہ کیلئے عمل FOR THE EXPANSION IN INCOME/ EARNING	53
83	نمازِ حاجت NIMAZ-E-HAJAT	54
85	شوگر کیلئے وظیفہ WAZIFA FOR DIABETES	55
86	مسائل کے حل کیلئے وظیفہ WAZIFA FOR THE SOLUTION OF PROBLEMS	56
87	گمشدہ چیز ملنے کا عمل PRACTICE FOR THE LOSS OF AN ITEM (GUMSHUDA CHEEZ)	57
89	دشمن سے بچاؤ کیلئے FOR THE SURVIVAL FROM ENEMY	58

90	<p>برے شخص کی اصلاح کیلئے</p> <p>FOR THE CORRECTION/ RECTIFICATION OF BAD PERSON</p>	59
91	<p>دُکھ پریشانی کیلئے</p> <p>FOR SORROWS AND TENSIONS</p>	60
92	<p>شادی کیلئے وظیفہ</p> <p>WAZIFA FOR MARRIAGE</p>	61
94	<p>ہر مقصد کیلئے ایک خاص دُعا</p> <p>A SPECIAL DUA FOR EVERY MOTIVE</p>	62
95	<p>الزام سے بچاؤ کیلئے</p> <p>FOR THE SURVIVAL OF ACCUSE/ INDICT</p>	63
96	<p>برائے استخارہ</p> <p>FOR ISTIKHARA</p>	64
98	<p>مخالفین سے اپنا حق لینے کا وظیفہ</p> <p>WAZIFA TO TAKE RIGHT FROM OPPONENT</p>	65
99	<p>اچھی محفل کیلئے</p> <p>FOR GOOD GATHERING/ ASSEMBLY (MAJLIS)</p>	66
100	<p>بلڈ پریشر سے نجات کیلئے</p> <p>FOR THE SURVIVAL OF BLOOD PRESSURE</p>	67

101	داغ و دھبہ کے نشان کیلئے FOR MARK/ STAIN REMOVING	68
101	جادو کے علاج کیلئے FOR THE TREATMENT OF MAGIC	69
103	گردے کا آزمودہ علاج USEFUL TREATMENT OF KIDNEY	70
104	بٹی کی شادی کیلئے وظیفہ WAZIFA FOR THE MARRIAGE OF DAUGHTER	71
106	مریض کیلئے وظیفہ WAZIFA FOR PATIENT	72
107	دین کی طرف راغب ہونے کیلئے TO OBTAIN CONCENTRATION TOWARDS RELIGION	73
108	غربت کا قرآنی علاج QURANI TREATMENT OF POVERTY	74
109	شادی کا آزمودہ وظیفہ USEFUL WAZIFA FOR MARRIAGE	75
111	بے چینی کا حل SOLUTION OF FRUSTRATION/ DISSATISFACTION.	76
114	مدد اور کامیابی کیلئے FOR HELP AND SUCCESS	77

115	پریشانی کے حل کیلئے دُعا DUA FOR THE SOLUTION FROM TENSION	78
117	غم سے نجات کیلئے FOR THE SURVIVAL OF SORROW	79
118	مسائل اور مشکلات کا حل SOLUTION OF TENSIONS AND PROBLEMS	80
119	ننانوے بیماریوں کا علاج TREATMENT OF 99 DISEASES	81
120	بٹی کی شادی کیلئے وظیفہ WAZIFA FOR THE MARRIAGE OF DAUGHTER	82
121	امیر ہونے کا وظیفہ WAZIFA FOR RICHNESS	83
122	ذولت کیلئے وظیفہ WAZIFA FOR WEALTH	84
123	کند ذہن بچے کیلئے وظیفہ WAZIFA FOR WEAK MINDED CHILD	85
125	دشمن سے چھٹکارے کیلئے وظیفہ WAZIFA FOR THE SURVIVAL OF ENEMY	86

126	ہزار حاجت کیلئے وظیفہ WAZIFA FOR 1000 NEEDS/ WANTS(HAJAT)	87
127	تنگی دور کرنے کیلئے وظیفہ WAZIFA FOR CONTRACTION	88
128	اولاد کی فرمانبرداری کیلئے FOR THE COMPLIANCE/ OBEDIENCE OF CHILDREN	89
129	ہفت روزہ وظائف WEEKLY WAZAIF	90
131	امتحان میں کامیابی کیلئے FOR THE SUCCESS IN EXAMS	91
132	کالے جادو کا توڑ RETALIATION AGAINST BLACK MAGIC	92
134	جادو اور جنات کا علاج TREATMENT OF MAGIC AND GHOSTS	93
136	انمول وظائف RARE/ PRICELESS WAZAIF	94
139	سر درد کے لئے بہترین عمل BEST PRACTICE FOR HEAD PAIN	95
141	سبع ستارگان کی الواح Alwah of Saba Sitargan	96

عرض مرتب

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ!
 تمام تعریفیں اس پروردگار عالم ﷻ کے لئے ہیں جس
 کی قوت جس کا حکم و علم و اختیار و ارادہ اس کائنات ہستی میں
 ہمیشہ سے جاری و ساری ہے۔ وہ عزیز و کریم ہے حکیم و علیم ہے۔
 ﷻ کا کوئی کام حکمت، علم و بصیرت سے خالی نہیں ہے۔ اس
 کی ذات واحد بے مثل ہے۔ وہ واجب الوجود ہے اور حی القيوم
 ہے اور تمام کائنات ہستی کو قائم رکھے ہوئی ہے۔

حکماء میں ضرب المثل مشہور ہے کہ:

﴿العلم علما ن علم الاحیان و علم الابدان﴾

یعنی علم دو ہیں ایک ادیان کا علم اور دوسرا ابدان کا علم۔ اس موضوع
 کے پیش نظر قرآن حکیم و احادیث و آثار میں روحانی و جسمانی معالجات اور
 آزمودہ دعاؤں کو بیان فرمایا گیا ہے یقین کریں کہ زندگی و موت ہر دو
 حالتیں انسان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پروردگار عالم ﷻ نے
 حضرات انبیاء و رسل علیہم السلام کے توکل سے انسانیت کی جسمانی و روحانی
 صحت و شفاء کا بندوبست بھی فرمایا۔ مختصر یہ کہ جہاں دُعا ہے تو وہاں دواء
 بھی ہے اور جہاں دواء ہے وہاں دُعا بھی ہے، دین اسلام نے دُعا اور دواء

کے روحانی اور مادی دونوں پہلوؤں کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے اور پھر ان دعاؤں اور وظائف کی اُس صورت کو تسلیم کیا ہے جو ان پاکیزہ کلمات پر مشتمل ہوں جن میں شرک و بدعت کی آمیزش نہ ہو۔

کتاب ﴿گھریلو پریشانیوں کا حل﴾ کے مطالعہ سے آپ کو میری موجودہ کاوش کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ جس میں میں نے اعمال اور وظائف کو عربی اردو اور انگریزی میں بیان کیا ہے ان لوگوں کے لئے جو اردو سے آراستہ نہیں ہیں ان کی آسائش کے لئے میں نے اردو کے ساتھ انگریزی بیان کی ہے۔ کتاب ہذا کو ہر ممکن حد تک وسائل کے پیش نظر عمدہ طور پر شائع کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس مہنگائی کے دور میں جبکہ ہر شے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں ہیں کتب کو عمدہ خط اور کاغذ نیز عمدہ طور پر طباعت و اشاعت سے آراستہ و پیراستہ کرنا ممکن نہیں تو کچھ معمولی بھی نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ میری اس مخلصانہ کاوش کو ذخیرہ عاقبت بنائے اور دنیا میں مجھے اور تمام مسلمانوں کو اس سے بہتر طور پر مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائے اور اجر و ثواب سے بہرہ اندوز فرمائے۔ آمین!

والسلام خیر التمام
سید ذیشان نظامی عفی عنہ

AUTHOR'S REQUEST

All praise to Almighty Allah, whose power, knowledge, authority, supremacy and influence is working in this entire universe. Who knows each and everything and acquainted as well.

Every practical of Almighty Allah's is done with absolute wisdom and insight. He is alive and present everywhere and the creator of everything in this universe.

It's a famous quote among wise people that ﴿العلم علان علم الاحیان و علم الابدان﴾ It means that there are two kinds of knowledge, the first is (Adyan-Ka-Ilm) and the second is (Abdan-Ka-Ilm).

In this subject there is presented physical and spiritual treatment and valuable prayers (Dua's) in the light of Quran-E-Hakeem and Hadith.

You should believe that these are associated with both situations of human

being which are life and death.

Almighty Allah has provided us the way of survival to human being from the eternal life through instructions. Almighty Allah has also arranged the solutions of physical and spiritual problems of his people through Ambia-E-Karam ﷺ.

In short, the existence of pray (Dua) is available along with medicine (Dua'a) and the existence of medicine (Dua'a) is available along with pray (Dua).

Islam has accepted the materialistic and spiritual importance of prayers and medicine and also accepted the position of these Dua's and Wazaif which comprises with those "Pakeeza Kalmat" which are totally excluded from any prohibited practical and purely correct as well.

You may easily asses my recent efforts through this book "Solution of Apprehensions". In which I have described the wazaif in Arabic, Urdu and English as well. I have translated this book in English for those who can not read Urdu. In this luxurious era where the price of everything is far above the ground and if the publication

of this book is not impossible then it is also not so much easier as well.

I pray to Almighty Allah to make my sincere efforts beneficial for my eternal life and for all the Muslims to get benefit from my book. Ameen Sum-Ameen!

Talib-E-Dua

Syed Zeeshan Nizami

قارئین کیلئے ضروری ہدایات

زندگی میں ہمیں کبھی خوشی ملتی ہے اور کبھی رنج، رنج اور پریشانی سے ہمیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ مصیبت اور پریشانی ہم سے ٹل جائے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر (سلف صالحین) نے ایسی ہی پریشانی میں نجات کیلئے ہمیں بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔

زیر نظر کتاب میں میں نے پریشانیوں کے حل کیلئے قرآن پاک کی دعائیں، احادیث مبارکہ اور اکابر کے چند اہم مجربات اور کچھ اپنے مجربات کو جمع کیا ہے جو تعویذ گندہ کرنیوالوں کے غلط عملیات سے بہت اعلیٰ و بالا ہیں۔ ان دعاؤں میں نہ ہی کسی چلہ کشی کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی قسم کی زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے۔ صوم و صلوٰۃ کی پابندی جھوٹ اور غیبت سے اجتناب کریں ہمیشہ کوشش کریں کہ با وضو رہیں اور وہ کام جو شرعاً

جائز ہو وہ کریں۔

جو کاہل اللہ ﷻ اور اس کے نبی کریم ﷺ کے منع فرمائے ہوئے ہیں وہ نہ کریں۔ صرف صدق، یقین کامل ایمان اور توجہ کی ضرورت ہے اور اللہ ﷻ سے عاجزانہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جب آپ حضرات ان باتوں کو اپنے اوپر سچے دل سے طاری کر کے ان دعاؤں اور وظائف میں سے کوئی دعایا وظیفہ کریں گے تو ان شاء اللہ ﷻ آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی جس کے لئے آپ دعایا وظیفہ کر رہے ہیں۔

میں نے مسلمانوں کی حالت زار اور ان کی گونا گوں پریشانیوں کو دیکھ کر اور جھوٹے اور دھوکے باز عالموں سے بچنے کیلئے اس مجموعہ کو مرتب کرنے کی منجانب اللہ ﷻ کوشش کی ہے قارئین کو چاہیے کہ وہ اپنی پریشانیوں کے حل کیلئے ان دعاؤں اور وظائف کو پڑھیں۔ اگر مشکل کے حل ہونے میں کچھ تاخیر ہو جائے تو بدول ہو کر اللہ ﷻ کی بارگاہ میں ان دعاؤں کے مانگنے کو مت چھوڑیں اللہ ﷻ کو وہی بندہ پسند ہے جو اس کی بارگاہ سے وابستہ ہے۔

اجازت اور مشورہ کیلئے

میں نے اس کتاب ﴿گھریلو پریشانیوں کے حل﴾ میں ہر پریشانی کی آسان قرآنی دعائیں بحوالہ ترجمہ کے ساتھ لکھی ہیں جنہیں قارئین کو پڑھنے میں دشواری نہ ہوگی اس کے علاوہ میں نے اپنے بزرگوں کے کچھ مجربات کو شامل کیا ہے۔ جن کو کرنے کی ہر خاص و عام کو اجازت ہے۔ ضروری بات یہ ہے کہ وظائف کو پڑھتے ہوئے قرآنی آیات کے اعراب اور معنی کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اگر قارئین کو کوئی دعایا وظیفہ سمجھ میں نہ آئے یا کرنے میں دشواری پیش آئے تو وہ مجھ سے اس پتہ پر رابطہ کریں۔

والسلام

سید ذیشان نظامی عفی عنہ

نزد انکم ٹیکس آفس سول لائن جہلم

0544-623643.....0300-5421086

www.zeeshannizami.com

Email: syedzeeshannizami@yahoo.com

AUTHOR'S APPEAL

Sometimes we get pleasure and sometimes we are worried in life. Indeed, in worries we feel so much pain and try our best to tackle the worry. Almighty Allah, Prophet Muhammad ﷺ and Akabars have described the solutions of such worries and tensions.

In this book I have suggested the solutions of tension in the light of Dua's of Holy Quran, Hadith Mubarka, and the collections of Akabar's Mujarbat. Which are superior and useful as compared to "Taveez ganda". In these dua's there is no need of chila kashi and zakat.

But be punctual of Som-O-Salat, avoid

telling lies and backbiting. Always remain in ablution (Ba-Wazoo) and perform those activities which are good, correct and valid. Those practices which are refused by Almighty Allah and His Beloved Prophet Muhammad ﷺ must be avoided.

There is only the need of accuracy, perfect believe, deliberation and humble prays (Dua's) to Almighty Allah. When you will implement following practices and perform any pray (Dua) or wazifa then Inshah Allah your each and every desire (Hajat) will come true.

I have observed the critical circumstances of Muslims, their worries, and wrong practices of liars and cheating Aamil. Therefore, I have tried to set this worthless collection by the grace of Almighty Allah.

Readers should read these wazaif for their tensions and worries, in case of any delay regarding the solution of tensions and worries. Do not be dishearted and never try to leave these dua's to

Almighty Allah. Almighty Allah likes those persons who keeps in touch or remains engage with their DUA's.

For Permission

I have written different Qurani Dua's with translation and proper references in this book. Some of those are added from the mujarbat of my ancestors, which are allowed to every one and special person. On the other hand, if the reader is unable to understand any dua or wazifa then he may contact me on the following address.

W-Salam

Syed Zeeshan Nizami

Near Income Tax Office

Civil Lines, Jhelum

0544-623643.....0300-5421086

www.zeeshannizami.com

syedzeeshannizami@yahoo.com

مصیبت یا حادثہ کے وقت کی دعا

PRAY (DUA) FOR THE TIME OF TENSION OR ACCIDENT

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے علی! میں تم کو وہ دعا نہ سکھا دوں جب تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو پڑھو میں نے کہا اللہ ﷻ مجھے آپ ﷺ پر فدا کرے۔ کیوں نہیں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم کسی حادثہ میں گرفتار ہو تو یہ دعا پڑھو اللہ ﷻ نے چاہا تو ہر قسم کی بلا دور ہوگی۔

It has been proved from Hazrat Ali رضی اللہ عنہ that Prophet Muhammad ﷺ said, Ali! I teach you a dua whenever you face any tension then recite it. I said may Almighty Allah sacrifice me on Prophet Muhammad ﷺ. Why not, Prophet Muhammad ﷺ said whenever you face any accident then recite the following dua If Almighty Allah wants then each and every problem will be solved.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ﴾

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے کوئی حیلہ و قوت و طاقت نہیں سوائے اللہ کے جو بلند عظیم الشان مرتبہ والا ہے۔

﴿عمل الیوم والللیۃ ص: ۲۰۷ باب ما یقول اذا وقع فی ورطۃ رقم ۳۳۶﴾

فائدہ: مصیبت اور حادثہ سے محفوظ رہنے کیلئے اس دعا مبارک کو سات بار روزانہ تلاوت کریں اول و آخرتین بار درود شریف پڑھیں۔

BENEFIT:

To remain safe from tension and accident recite this dua 7 times in a day and recite darood shareef 3 times in the beginning and ending.

.....☆.....☆.....

نورانیت حاصل کرنے کیلئے

TO GET LIGHT/ BEAUTY

دل میں اور چہرے پر نور پیدا کرنے کیلئے روزانہ اکیس مرتبہ یہ آیات مبارک پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اول و آخر درود ابراہیمی تین بار پڑھیں۔ اور دعا کریں اس عمل کو تین ماہ تک جاری رکھیں

ان شاء اللہ ﷻ آپ کا دل اور چہرہ خوب نورانی ہو جائے گا۔

To create light/ beauty over face and heart recite this Ayat 21 times in a day and recite darood-e-ibrahimi three times in the beginning and ending. Then pray to Almighty Allah and keep this practice continue for three months. Inshah Allah your heart and face will be enlightened.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ

نُورِهِ كَمِشْكُوَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ

الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ

كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ

مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ

نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ

يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

﴿پارہ نمبر 18، سورۃ النور، آیت نمبر 35﴾

.....☆.....☆.....

بیماری کے علاج کیلئے

FOR THE TREATMENT OF ILLNESS / DISEASE

اگر گھر کا کوئی مرد، بچہ یا بچی، بزرگ بیمار رہتا ہو، یا کمزور ہو رہا ہو، سوکھتا چلا جاتا ہو اور بظاہر کوئی بیماری بھی نہ نظر آئے تو اول و آخر سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں ﴿۱۴۱﴾ مرتبہ اس آیت مبارکہ کو اکتالیس دن تک پڑھیں۔
ان شاء اللہ ﷻ ہر بیماری سے شفا نصیب ہوگی۔

If a male, child or an aged person remains sick or becoming weak and his/her physical appearance does not show any illness then recite darood-e-ibrahimi seven times in the beginning and ending and in the middle recite this Ayat 141 times for 41 days. Inshah Allah each and every disease will be finished.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ يَتَّبِعُوْا
مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُوَصِّیْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ
وَلَا نُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ﴾

﴿پارہ نمبر 13، سورۃ یوسف، آیت نمبر 56﴾

حاملہ عورت کی حفاظت کیلئے

FOR THE SECURITY OF PREGNANT LADY

حضرت مولانا شاہ عبدالباقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں بیان کیا ہے کہ بعض لوگوں نے مجھ سے دریافت کیا تھا کہ حفاظتِ حمل کے لئے بہترین عمل کیا ہے مجھے میرے بزرگوں سے معلوم ہوا تھا کہ جو شخص یہ آیات مبارکہ:

Hazrat Molana Shah Abdul Baqi رحمۃ اللہ علیہ said in a gathering (Majlis) that, some people discovered from me the best practice for the security of pregnant lady (upcoming baby). I found from my elders that whoever person recites this Ayat over water and will give this water to any pregnant lady to drink then her pregnancy (upcoming baby) will remain safe.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذْ قَالَتْ اٰمْرًاۙ اَمْرًاۙتِ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّیْ

نَذَرْتُكَ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا

فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ


الْعَلِيمُ ۝ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّی
 وَضَعْتُهَا اُنْثٰی وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا
 وَضَعْتُ وَ لَیْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰی وَ
 اِنِّی سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ وَ اِنِّی اَعِیْذُهَا بِكَ
 وَ ذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ۝
 فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَ اَنْبَتَهَا
 نَبَاتًا حَسَنًا وَ كَفَّلَهَا زَكَرِیَّا كَلِمًا
 تَخَلَّ عَلَیْهَا زَكَرِیَّا الْمِحْرَابَ وَ جَدَّ
 عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ یَمْرِیْمُ اِنِّی لَکِ هٰذَا
 قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۝ اِنَّ اللّٰهَ
 یَرْزُقُ مَنْ یَّشَآءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ ۝ ﴿

﴿پارہ ۳ سورہ آل عمران آیت ۳۵/۳۶/۳۷﴾

پانی پر دم کر کے حاملہ عورت کو پلائے گا تو حمل قائم رہے گا اور
 بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان آیتوں کو گلاب اور زعفران سے لکھ
 کر حاملہ عورت کے داہنے بازو پر باندھ دیں تو ان شاء اللہ بزرگ وہ
 آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رہے گی۔

﴿بیاض اولیاء﴾

It has also been written by elders that write these ayaat with Gulab (Rose) and Zafran and place it on the right arm of pregnant lady. Then Inshah Allah she will become completely secure from each and every disaster.



شادی کے مسئلوں کیلئے

FOR THE PROBLEMS OF MARRIAGE

اگر کسی نے رشتوں کی بندش لگا دی ہو اور لڑکا لڑکی کی عمر گزرتی جا رہی ہو جہاں بات ہو وہاں انکار ہو جاتا ہو یا پھر رشتے نہ آتے ہوں اگر آتے ہوں تو واپسی جواب نہ ملتا ہو تو ایسی صورت میں ﴿سورۃ والتین﴾ مکمل روزانہ باوضو اکتالیس مرتبہ بعد نماز فجر پڑھیں اور اپنے مقصد کی دعا کریں چالیس دن عمل کریں۔ ان شاء اللہ ﷻ چالیس دن کے اندر اندر رشتوں کی بندش ختم ہو کر اچھے رشتے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔

If there is any problem in marriage and the age of boy/girl is passing

through where marriage is settled and then it breaks. In such situation recite complete (Surat Watteen) daily for 41 times (ba-wazoo halat mein) after Fajar Prayer and then pray for your motive and keep this practice continue for 40 days. Inshah Allah all such problems will be solved and marriage will successfully be settled within 40 days.

.....☆.....☆.....

جامع استغفار

COMPREHENSIVE

PRACTICE (ASTAGHFAR)

شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے نبی پاک ﷺ سے یہ استغفار نقل

کیا ہے آپ ﷺ نے اسے سید الاستغفار فرمایا ہے:

Shadad bin os رضی اللہ عنہ copied this practice from Prophet Muhammad ﷺ and declared it as Sayed-Al-Astaghfar.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى

عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ
 اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوؤ لَكَ
 بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَ اَبُوؤ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي
 فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ ﴿﴾

ترجمہ: ”اے اللہ! تو ہی میرا پروردگار ہے تیرے سوا کوئی

معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا میں تیرہ بندہ ہوں اور تیرے عہد و
 پیمان پر قائم ہوں جو کچھ میں نے کیا ہے اس کی برائی سے تیری
 پناہ مانگتا ہوں اور جو مجھ پر انعام کیا ہے اس کا اقرار کرتا ہوں اور
 اپنے گناہ کا معترف ہوں پس تو میری مغفرت فرما کیونکہ تیرے
 سوا اور کوئی گناہ کو بخش نہیں سکتا۔“

﴿صحیح بخاری شریف الدعوات باب افضل الاستغفار حدیث: ۶۳۰۶﴾

فائدہ: کلمات استغفار میں یہ نہایت ہی جامع اور مستند ہے

آپ ﷺ نے اسے سید الاستغفار سے موسوم کیا ہے ہر شخص یاد
 کرے اور صبح و شام اس کے پڑھنے کا التزام رکھے۔

﴿رحمۃ العالمین ﷺ کی دعائیں﴾

BENEFIT:

In Kalamat-E-Astaghfar this is so much comprehensive and authentic. He

declared it as Sayed-Al-Astaghfar everybody should remember and recite in morning and evening.



آپ ﷺ کے پسندیدہ استغفار

FAVOURITE ASTAGHFAR OF
PROPHET MUHAMMAD ﷺ

﴿رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾

ترجمہ: یا رب معاف فرما اور رحم فرما تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔

﴿أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ﴾

ترجمہ: میں اللہ سے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف پلٹتا ہوں۔

﴿اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي﴾

ترجمہ: "اے اللہ مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما۔"

﴿اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي﴾

ترجمہ: "اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا معافی کو

پسند کرتا ہے اس لئے مجھے معاف فرمادے۔"

﴿مالی پریشانیوں کا نبوی علاج ص: ۱۳۳﴾

فائدہ: آپ ﷺ کی ان مبارک دعاؤں کو ہمیں اپنی ہر دعا میں مانگنا چاہیے۔

BENEFIT:

In such blessed prays (Dua's) of Prophet Muhammad ﷺ we should perform this pray in our each and every pray (Dua).



مصیبت کے حل کیلئے

FOR THE SOLUTION OF TENSION:

مصائب اور غم انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہیں اگر مصیبت کے وقت اللہ ﷻ کی رحمت شامل حال ہو جائے تو مصیبت بہت جلد رفع ہو جاتی ہے۔ اس مقصد کے لئے اس دعا کا ورد انتہائی اکیسر ہے لہذا اگر کسی شخص پر اچانک مصیبت آجائے اور اس سے خلاصی کا کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو تو مصیبت زدہ کو چاہیے کہ وہ نماز تہجد ادا کرے اور اس کے بعد اس دعا کو ﴿۳۱۳﴾ مرتبہ اکیس یوم تک پڑھے اور اللہ ﷻ سے مصیبت سے نجات کی دعائیں مانگے۔ ان شاء اللہ ﷻ مصیبت سے نجات حاصل ہو جائے گی۔

Tensions and sorrows are an important part of everyone's life. If the blessings of Almighty Allah includes at the time of tensions and sorrows then

such tensions or sorrows can shortly be resolved. For this purpose recitation of this dua is extremely beneficial. Therefore, if a person becomes the victim of sudden tension and he finds no way to tackle such tensions then he should offer Nimaz-E-Tahajud after this he should recite this dua 313 times for 21 days and then pray to Almighty Allah. Inshah Allah all such tensions will be solved.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَاءَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ﴾

.....☆.....☆.....

مشینری اور ایٹمی دور کا جامع عمل

COMPREHENSIVE PRACTICE OF MECHANICAL AND ATOMIC ERA

اگر آپ کو اس مشینری دور میں طویل اور لمبے عمل کرنے کی
فرصت نہ ملے تو نماز فجر کے بعد مندرجہ ذیل مختصر وظائف کو اپنا
معمول بنالیں ان شاء اللہ ﷻ زندگی امن و چین اور حفظ و امان

سے گزرے گی۔ اس عمل کے اول و آخر گیارہ بار درودِ ابراہیمی لازمی پڑھیں۔ پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں، سے محفوظ رہیں گے۔ یہ وظائف حضور اکرم ﷺ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں۔ جو کہ مشکوٰۃ شریف میں موجود ہیں:

If you do not have ample time for long practices in this mechanical and atomic era then recite following wazaif after Nimaz-E-Fajar on daily basis. Inshah Allah your life will become completely peaceful and satisfactory. In the beginning and ending of this practice must recite Darood-E-Ibrahimi 11 times. You will remain safe from problems, tensions and sudden disasters. These wazaif are done by our beloved Prophet Muhammad ﷺ and are available in Mashkaat-E-Shareef.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ ﴾ ﴿ ۱۰۰ بار ﴾
- ﴿ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِي مِنَ النَّارِ ﴾ ﴿ ۱۰۰ بار ﴾
- ﴿ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ﴾ ﴿ ۱۰۰ بار ﴾
- ﴿ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ﴾ ﴿ ۱۰۰ بار ﴾

﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.....﴾ ﴿♦♦ ابار﴾

﴿يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ.....﴾ ﴿♦♦ ابار﴾

﴿يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.....﴾ ﴿♦♦ ابار﴾

﴿صَلَّى اللهُ عَلَى حَبِيْبِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ﴾ ﴿♦♦ ابار﴾

نوٹ: یہ وظائف اس نیت سے پڑھا کریں کہ اے اللہ

میرے گناہوں کو بخش دے مجھے غموں اور پریشانیوں سے نجات دے

اور مجھے مصائب و بلیات، حادثات و آفات اور حاسدوں و دشمنوں

کے شر سے بال بال محفوظ رکھے۔ مجھے رزق حلال دے اور میری دنیا

و آخرت دونوں سنوار دے۔

﴿رحمت عالم ﷺ کی دعائیں﴾

NOTE: Read these wazaif with this frame of mind that may Almighty Allah absolve my sins and secure myself from tensions, problems, accidents, enemies and disasters and provide us right way of earning and make life better in this world and in the last world.

.....☆.....☆.....

شادی کیلئے وظیفہ

WAZIFA FOR MARRIAGE

جس لڑکے یا لڑکی کے لئے رشتہ نہ ملتا ہو یا رشتے کی بات چل کر ختم ہو جاتی ہو یا رشتے کا پیغام آتا ہو لیکن مناسب بات نظر نہ آتی ہو تو اس صورت میں لڑکے یا لڑکی کے گھر والوں کے کچھ افراد گھر میں عشاء کی نماز کے بعد پاکیزہ کپڑے پہن کر قبلہ رو ہو کر بیٹھیں اور ﴿سورہ یسین﴾ کو مجموعی طور پر اکتالیس بار پڑھیں اور اس کے بعد اللہ کے اسم جبروت درج ذیل کو مل کر سو کی تعداد میں پڑھیں۔ بعد ازاں اللہ سے دعا مانگیں تو اللہ کے فضل و کرم سے لڑکے یا لڑکی کی قسمت کھل جائے گی اور جلد ہی کسی اچھی جگہ پر رشتہ طے ہو جائے گا اس عمل کو سات یوم تک کریں۔ اول و آخر حسب ذیل درود شریف سات مرتبہ پڑھیں۔

If there is any problem in marriage and the age of boy/girl is passing through where marriage is settled and then it breaks. In such situation some of the family members of girl or boy need to sit at the right direction 'of Kibla and recite (Surat Yaseen) 41 times after Isha

Prayer. This practice must be done in neat and clean dress. After this read Almighty Allah's Ism-E-Jabroot 100 times.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿يَا كَرِيْمُ تَكَرَّمْتَ بِالْكَرَمِ وَالْكَرَمُ فِي كَرَمِكَ يَا كَرِيْمُ﴾

After this pray to Almighty Allah Inshah Allah with the blessings of Almighty Allah marriage of girl or boy will be settled at an ideal place. Keep this practice continue for 7 days. Recite Darood-E-Shareef seven times in the beginning and ending.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی حَبِيْبِكَ
الْمُصْطَفٰی وَ عَلٰی اٰلِهِ وَسَلِّمْ﴾

﴿دروود شریف سے پریشانیوں کا حل﴾

.....☆.....☆.....

محبت کیلئے وظیفہ

WAZIFA FOR LOVE

جس شخص کے دل میں اپنی جائز محبت ڈالنی ہو یا جس خاندان میں نا اتفاقی ہو تو اتفاق پیدا کرنے کیلئے یہ آیت مبارکہ ﴿۱۰۱﴾ مرتبہ روزانہ پڑھیں اول و آخر درود ابراہیمی گیارہ بار پڑھیں اکیس دن تک نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ کریں۔
ان شاء اللہ عزوجل نفرت محبت میں بدل جائے گی۔

If a person wants to create love in the heart of other person or if there is a situation of disagreement in a family then recite this Ayat-E-Mubarakah 101 times daily and recite Darood-E-Ibrahimi 11 times in the beginning and ending and keep this practice continue for 21 days. This practice must be done after Nimaz-e-Fajar. Inshah Allah hate will be turned into love.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿وَالْفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ ۖ لَوْ اَنفَقْتَ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مَّا اَلْفَتَبَیْنَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَلَکِنَّ اللّٰهَ اَلْفَ بَیْنَهُمْ ۗ اِنَّهٗ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ﴾

﴿پارہ نمبر 10، سورۃ الانفال، آیت نمبر 63﴾

تکبر سے بچنے کا وظیفہ

WAZIFA FOR THE SURVIVAL OF ARROGANCE / SUPERIORITY

حضرت موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام نے مغرور لوگوں کے شر سے پناہ مانگی تو
اللہ عَلَيْهِ السَّلَام نے مخالفین میں سے ان کا حمایتی پیدا کر کے آپ عَلَيْهِ السَّلَام
کی اس آیت مبارکہ سے اعانت فرمائی۔ تکبر جیسی بُری عادت
سے بچنے کیلئے اس آیت مبارکہ کو ہر روز کسی وقت بھی اکتالیس
بار ضرور تلاوت کریں اول و آخر تین بار درود ابراہیمی لازمی
پڑھیں۔ بعد میں تکبر جیسی بُری عادت سے بچنے کیلئے اللہ عَلَيْهِ السَّلَام
کے حضور اسی آیت مبارکہ کے واسطے سے دعا مانگیں۔

Hazrat Musa عَلَيْهِ السَّلَام requested for help
from those people who are over
confident / proud people then Almighty
Allah helped Hazrat Musa عَلَيْهِ السَّلَام through
this Ayat-E-Mubarka. For the survival
from pride/ proud people must recite this
Ayat 41 times any time in a day and
recite Darood-E-Ibrahimi 3 times in the
beginning and ending. After such
practice pray to Almighty Allah.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿اِنِّیْ عُوْذْتُ بِرَبِّیْ وَرَبِّکُمْ مِّنْ کُلِّ

مُتَکَبِّرٍ لَا یُوْمِنُ بِیَوْمِ الْحِسَابِ﴾

ترجمہ: ”شروع اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔“

”بے شک میں ہر اس متکبر سے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اپنے

اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں۔“

﴿پارہ: ۲۳، سورۃ المؤمن آیت: ۲۷﴾



ظالم شخص سے بچنے کیلئے

**FOR THE SURVIVAL OF
CRUEL PERSON**

ظالم کے ظلم سے نجات کیلئے گیارہ دن تک روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ

اس آیت کا پڑھنا فائدہ مند ہے۔ یاد رہے کہ یہ آیت بڑی جلالی ہے

کسی ناجائز مقصد کیلئے پڑھنا اپنا نقصان خود کرنا ہے صرف انتہائی

مشکل حالت میں دشمن کے ظلم سے نجات کیلئے پڑھیں۔

For the survival from cruel person
recitation of this Ayat 313 times for 11

days is beneficial. keep in mind that, this Ayat is so much supreme that's why recitation of this Ayat for any illegal motive is absolutely harmful. This Ayat only be recited in very tough/ hard time.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ط
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

﴿پارہ نمبر 7، سورۃ الانعام، آیت: 45﴾

.....☆.....☆.....

بچے کی پیدائش کیلئے

FOR THE BIRTH OF CHILD

بے اولاد جوڑے اکیس دن تک تین سو تیرہ مرتبہ یہ آیت
مبارکہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے میاں بیوی دونوں
کھائیں۔ اللہ ﷻ کے فضل و کرم سے صالح اولاد پیدا ہوگی۔
اول و آخر درود ابراہیمی گیارہ بار لازمی پڑھیں۔


This Ayat is for those parents who are deprived from children. For the birth of a child recite this Ayat 313 times for 21 days over any sweet item/thing. It must

be eaten both husband and wife by the grace of Almighty Allah they will have a new baby. Recite Darood-E-Ibrahimi 11 times in the beginning and ending.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا ط يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرٌ﴾

﴿پارہ نمبر 6، سورۃ المائدہ، آیت: 17﴾



دشمن سے بچاؤ کیلئے

FOR THE SURVIVAL OF ENEMY

دشمن سے کسی قسم کا خوف ہو یا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس
آیت کو روزانہ ﴿۱۰۱﴾ مرتبہ پڑھ لیں، ان شاء اللہ، دشمن
کے شر سے ہر طرح سے محفوظ رہیں گے اول و آخر درود ابراہیمی
تین بار ضرور پڑھیں۔

If there is any risk or danger from enemy then recite this Ayat 101 times in a day. Inshah Allah you will completely

be secured from every enemy must recite Darood-E-Ibrahimi 3 times in the beginning and ending.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ
مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾

﴿پارہ نمبر 10، سورۃ التوبہ، آیت نمبر 51﴾

.....☆.....☆.....

اللہ کی رحمت کیلئے

FOR THE BLESSINGS OF

ALMIGHTY ALLAH

اللہ کی رحمت کے حصول کیلئے یہ آیت صبح و شام ﴿۱۱﴾ مرتبہ روزانہ پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اول و آخر درود ابراہیمی تین بار پڑھیں اس عمل پر مداومت رکھنے سے ان شاء اللہ ہر کام میں اللہ کی رحمت نظر آئے گی اللہ کا بندہ خاص بننے کیلئے بھی اس آیت مبارکہ کا وظیفہ بہت ہی بجز ہے۔

For the blessings of Almighty Allah recite this Ayat 11 times in morning and

evening and say many thanks to Almighty Allah. Recite Darood-E-Ibrahimi 3 times in the beginning and ending. Keep this practice continue Inshah Allah you will get the blessings of Almighty Allah.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ
وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ
يَّشَاءُ ۝ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝﴾

﴿پارہ نمبر 3، سورۃ آل عمران، آیت نمبر 74-73﴾

.....☆.....☆.....

بیماریوں کے علاج کیلئے

FOR THE TREATMENT
OF DISEASES

اگر کوئی ایسا مرض ہو گیا ہو جس سے ڈاکٹر و حکیم عاجز آگئے
ہوں تو اس وقت اس وظیفہ کو استعمال میں لائیں۔ یہ وظیفہ ہر قسم
کی ظاہری و باطنی بیماری کے لئے مفید ہے۔

If there is a patient who's doctor is unable to treat him/her. Then use this wazifa this wazifa is beneficial for each and every disease/illness.

صبح کی نماز کے بعد اس وظیفہ کو پانچ سو ﴿۵۰۰﴾ بار اکیس ﴿۲۱﴾ دنوں تک تلاوت کریں پانی پر، یا دودھ پر یا شہد پر دم کریں اور مریض کو صبح نہار منہ استعمال کروائیں اگر ہو سکے تو مریض پر بھی دم کریں اور اللہ کے حضور مریض کی صحت یابی کے لئے دعا کریں۔

After Fajar Prayer recite this wazifa over water or honey 500 times for 21 days and give it to the patient for drink in early morning and pray to Almighty Allah for the recovery from illness/disease.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿يَا بَدِيعَ الْعَجَائِبِ بِالشِّفَاءِ يَا بَدِيعُ﴾

وقت اور جگہ کی پابندی کریں اول و آخر درود ابراہیمی ﴿۱۱-۱۱﴾ بار تلاوت کریں اور اپنے لئے یا جس کی بیماری کے لئے کرنا ہو تو اس کی بیماری کو ذہن میں رکھیں اور یوں عرض کریں کہ اے اللہ! اس وظیفہ کے ذریعہ ہمیں اس بیماری سے شفاء حاصل ہو۔

﴿جسمانی بیماریوں کا روحانی علاج اسلامی وظائف، مجموعہ وظائف﴾

Be punctual of time and place and recite Darood-E-Ibrahimi 11 times, in the beginning and ending. And keep yourself or patient in your mind and pray to Almighty Allah.

.....☆.....☆.....

آمدنی میں اضافہ کیلئے

TO INCREASE EARNING/ INCOME

آمدنی میں اضافہ کیلئے بعد نماز فجر روزانہ اس آیت مبارکہ کو تین سو تیرہ بار اول و آخر درود ابراہیمی المرتبہ پڑھیں وظیفہ کے اختتام پر اللہ ﷻ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ گڑگڑا کر دعا کریں۔

To increase earning/ income recite this Ayat-E-Mubarka 313 times after Fajar Prayer and recite Darood-E-Ibrahimi 11 times in the beginning and ending. At the end of this wazifa pray to Almighty Allah with full of humbleness.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿اللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ﴾

﴿پارہ نمبر 21، سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 62﴾

سانپ اور بچھو سے بچاؤ کیلئے

FOR THE SURVIVAL OF SNAKE AND SCORPION

حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہم نے ذکر کیا کہ ہم لوگوں نے آپ ﷺ کے آگے ڈنگ (بچھو، سانپ وغیرہ) کی ایک جھاڑ کو پیش کیا تو آپ ﷺ نے اجازت دی اور فرمایا یہ ایک عہد ہے جو سلیمان علیہ السلام نے ڈنگ مارنے والے جانوروں سے لیا ہے کہ وہ (جانور) ان کو ضرر نہ پہنچائیں گے وہ یہ ہے:

Hazrat Abdullah Bin Zaid رضی اللہ عنہم said that we people presented plenty of Snakes and Scorpions in front of Prophet Muhammad ﷺ then Prophet Muhammad ﷺ grant permission and said this is a promise (which is done by Hazrat Suleman علیہ السلام from harmful animals (Dang marne wale janwar) that they will perform no damage. That is:

﴿بِسْمِ اللّٰهِ شَجَّةٌ قَرْنِيَّةٌ مِلْحَةٌ بَحْرٌ قَفْطًا﴾

﴿عمل الیوم واللیلۃ من: ۲۳۵، رقم: ۵۷۵، حسن: ۲۳۵﴾

اس حدیث کے روایت کرنے والے نے بیان کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک آدمی تھا اس کو (بچھو نے یا کسی اور چیز نے) ڈس لیا چنانچہ یہ پڑھا گیا تو وہ بالکل صحیح سالم ہو گیا۔

نقصان سے بچاؤ کیلئے

FOR THE SURVIVAL OF DANGER/ RISK

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو صبح و شام تین بار پڑھ لے گا وہ جلنے ڈوبنے سے محفوظ رہے گا اور ولی اللہ حضرت عطاء رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ شخص شیطان ظالم اور سانپ بچھو سے محفوظ رہے گا۔

Hazrat Ibn-E-Abbas رضی اللہ عنہما said that whoever person recite this Dua three times in morning and evening then he will become completely secure from each and every danger/ risk and Wali Allah Hazrat Attah رحمہ اللہ added that he will also be secured from devil, cruel person, snake and scorpion.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿بِسْمِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا يَسُوْقُ الْخَيْرَ
إِلَّا اللّٰهُ بِسْمِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا يَصْرِفُ
السُّوْءَ إِلَّا اللّٰهُ بِسْمِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ مَا

كَانَ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ
اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

ترجمہ: اللہ کے نام سے وہ جو چاہے بھلائی صرف اللہ ہی لیکر آتا ہے اللہ کے نام سے وہ جو چاہے برائی صرف اللہ ہی دور کرتا ہے۔ اللہ کے نام سے وہ جو چاہے جو کوئی نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اللہ کے نام سے وہ جو چاہے کوئی طاقت و قوت نہیں بغیر اللہ کے حکم کے۔

﴿اتحاف السادہ، ج: ۳، ص: ۳۷۹﴾

.....☆.....☆.....

شادی کے لئے وظیفہ

WAZIFA FOR MARRIAGE

عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر درود ابراہیمی گیارہ بار اور ان اسم مبارک کو اکیس دن تک بغیر ناغے کئے گیارہ سو بار پڑھیں۔
ان شاء اللہ ﷻ شادی ہو جائے گی۔

After Isha Prayer recite this Isma Mubarak 1100 time for 21 consecutive days and recite Darood-E-Ibrahimi 11

times in the beginning and ending.
Inshah Allah marriage will be setted.

﴿يَا اللَّهُ يَا مُعْطِي﴾

.....☆.....☆.....

دوستی کرنے کیلئے وظیفہ

WAZIFA FOR FRIENDSHIP

جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد اول آخر درود ابراہیمی سات
بار اور ان اسماء مبارک کو تین سو تیرہ بار مطلوب کا تصور کر کے
سات جمعوں تک پڑھیں۔

Recite this Isma Mubarak 313 times
after Juma Prayer and Darood-E-
Ibrahimi 7 times in the beginning and
ending and keep this practice continue
for 7 Fridays.

﴿يَا اللَّهُ يَا جَامِع﴾

.....☆.....☆.....

آمدنی میں اضافہ کیلئے وظیفہ

WAZIFA FOR EARNING/ FOR THE

EXPANSION IN INCOME

نماز فجر کے بعد اور نماز اشراق سے پہلے ان اسماء مبارک کو
رزق میں کشادگی کیلئے اول آخر درود ابراہیمی گیارہ بار کے پانچ

سو بار پابندی کے ساتھ بغیر تاخیر کے اکیس دن تک پڑھیں۔
ان شاء اللہ بزرگ آمدنی میں اضافہ ہوگا۔

After Fajar Prayer and before Ishraq Prayer recite this Isma Mubarak 500 times for 21 consecutive days and recite Darood-E-Ibrahimi 11 times in the beginning and ending. Inshah Allah income will increase.

﴿يَافَتَّاحُ يَا رِزَّاقُ﴾

.....☆.....☆.....

کاروبار میں اضافہ کیلئے وظیفہ

WAZIFA FOR THE

EXPANSION OF BUSINESS

نماز عصر کے بعد نماز مغرب سے پہلے ان اسماء مبارک کو تین سو تیرہ بار اول آخر درود ابراہیمی گیارہ بار کے اکتالیس دن تک پڑھنے سے کاروبار میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔

After Asar Prayer and before Maghrib Prayer recite this Isma Mubarak 313 times for 41 days and recite Darood-E-Ibrahimi 11 times in the beginning and ending.

﴿يَافَتَّاحُ يَا بَاسِطُ﴾

بڑے عہدہ کیلئے وظیفہ

WAZIFA FOR HIGHER POSTS

بعد نماز فجر اول و آخر درود ابراہیمی اکیس بار اور ان اسماء مبارک کو تین سو تیرہ بار مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے تلاوت کریں۔ اکتالیس دن تک اس وظیفے کو جاری رکھیں۔

After Fajar Prayer recite this Isma Mubarak 313 times for 41 days and recite Darood-E-Ibrahimi 21 times in the beginning and ending.

﴿يَا بَدِيعُ يَا عَلِيُّ﴾

.....☆.....☆.....

حاجت کیلئے وظیفہ

WAZIFA FOR

NEED / WANT (HAJAT)

نماز چاشت پابندی کے ساتھ ادا کریں اور ان اسماء مبارک کو نماز ادا کرنے کے بعد اول و آخر درود ابراہیمی گیارہ بار کے چار سو پچاس بار اکیس دن تک پڑھیں۔ ان شاء اللہ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ حاجت پوری ہوگی۔

Offer Nimaz-e-chasht regularly and

after this, recite this Isma-e-mubarak 450 times for 21 days. Recite Darood-E-Ibrahimi 11 times in the beginning and ending. Inshah Allah need(Hajat) will come true.

﴿يَا جَلِيلُ يَا عَزِيزُ يَا مُعِزُّ﴾

.....☆.....☆.....

لاپتہ/گمشدہ بچے کیلئے وظیفہ

WAZIFA FOR THE LOSS OF CHILD

جو بچہ لاپتہ یا غلام گھر سے بھاگ گیا ہو اس کو واپس لانے کیلئے ان اسماء مبارک کو ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود ابراہیمی سات بار کے تین سو تیرہ بار تصور کے ساتھ پڑھیں۔ جب تک مقصد حاصل نہ ہو وظیفہ جاری رکھیں۔

If a child or slave runs away from home. For bringing him back recite Isma-e-mubarak 313 times after every farz Nimaz. Recite Darood-e-Ibrahimi 7 times in the beginning and ending. Keep this practice continue until you get success.

﴿يَا مُبْدِيُّ يَا مُعِزُّ﴾

.....☆.....☆.....

امتحان میں کامیابی کیلئے

FOR THE SUCCESS IN EXAMS

امتحان ہونے سے پہلے اور درمیان میں ان اسماء مبارک کو
کثرت سے زبان پر جاری رکھیں ان شاء اللہ ﷻ امتحان میں
آسانی اور کامیابی ہوگی۔

Before and after exam recite this Isma
Mubarak plenty of times. Inshah Allah
you will get success in exams.

﴿يَا عَلِيمُ يَا خَبِيرُ﴾

﴿اسماء الحسنى سے مشکلات کا حل﴾

.....☆.....☆.....

اچھی صحت کیلئے

FOR GOOD HEALTH

جو مسلمان اس بات کا خواہشمند ہو کہ وہ مرتے دم تک صحت مند و
تندرست رہے اور اُس کے جسم کے تمام اعضاء ٹھیک کام کرتے
رہیں اُسے چاہیے کہ وہ روزانہ اس آیت مبارکہ کو اکتالیس بار اول و
آخر درود ابراہیمی سات بار کے بلا ناغہ پڑھتا رہے اور اپنے اوپر دم
کرتا رہے۔ ان شاء اللہ ﷻ صحت صحیح رہے گی۔

If a person wants to remain healthy till death then he should recite this Ayat-E-Mubarak 41 times daily and Darood-E-Ibrahimi 7 times in the beginning and ending. Inshah Allah he will remain healthy.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ
اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنْ
اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾

﴿پارہ نمبر 21، سورۃ الروم، آیت نمبر 30﴾

.....☆.....☆.....

نئے کاروبار کی کامیابی کیلئے

**FOR THE SUCCESS OF NEW
BUSINESS**

نیا کاروبار کرنے والے کاروبار کی کامیابی اور رزق کی
فراوانی کیلئے اس آیت کو روزانہ ﴿۳۱۳﴾ مرتبہ اکیس دن تک
پڑھیں اول و آخر دو دہرے تین بار پڑھیں۔
ان شاء اللہ ﷻ کاروبار میں اضافہ ہوگا۔

For the success of new business recite this Ayat 313 times for 21 days and recite Darood-E-Ibrahimi 3 times in the beginning and ending. Inshah Allah new business will become successful.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیْدُ ۝﴾

﴿پارہ نمبر 21، سورۃ لقمان، آیت نمبر 26﴾

.....☆.....☆.....

حاجت کیلئے وظیفہ

WAZIFA FOR NEED (HAJAT)

یہ وظیفہ تجارت اور ترقی روزگار کے لئے عجیب تاثیر رکھتا ہے۔ ترکیب اس کی یہ ہے کہ:

بعد نماز عشا پانچ سو بار بسمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اور تین سو مرتبہ ﴿يَا مُسْتَبِیْبُ الْاَسْبَابِ﴾ ایسی جگہ بیٹھ کر پڑھیں جو پرسکون ہو اور کسی قسم کا شور و غیرہ نہ ہو اول و آخر درود ابراہیمی تین بار پڑھیں۔ ان شاء اللہ عَزَّوَجَلَّ غیب سے رزق ملے گا اور ہر قسم کی جائز حاجت پوری ہوگی۔ اس وظیفے کو اکیس دن تک کرتے رہیں۔

﴿از منقولہ امام طبرانی رضی اللہ عنہ﴾

This wazifa has strange effect over trade and progress in earning. After Isha prayer recite ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ 500 times and recite ﴿يَا مُسَبِّبَ الْاَسْبَابِ﴾ 300 times and be seated at a peaceful place. Recite Darood-E-Ibrahimi 3 times in the beginning and ending Inshah Allah your needs/ desires will come true. Keep this practice continue for 21 days.

.....☆.....☆.....

اطمینان و سکون کیلئے

**FOR SATISFACTION/ TO GET
SATISFACTION AND PEACE**

نماز مغرب سے فراغت کے بعد دو رکعت نماز نفل پڑھیں پھر رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں اکیس مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس کا ثواب پیش کریں۔ اس کے بعد ایک سو ایک مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھیں۔

After Maghrib prayer offer two rakat Nimaz-E-Nafal and then recite Darood-E-Ibrahimi 21 times. Then recite this Isma Mubarak 101 times.

ان شاء اللہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کسی بھی وجہ سے پریشانی ہو خواہ مالی حالت خراب ہو یا مقدمہ کا فکر ہو، غرض کسی بھی وجہ سے اگر دل پریشان ہو تو اس عمل کی برکت سے اللہ اپنا فضل فرمائیں گے۔ پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور دل کو اطمینان و سکون کی دولت نصیب ہوگی۔

Inshah Allah all the problems will be resolved. If you are upset because of tensions, financial crises even for any other reason if your heart is not satisfied then you will get complete satisfaction.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿يَا اَللّٰهُ يَافْتٰحُ يَآبَاسِطُ هُوَ الْاَوَّلُ
هُوَ الْاٰخِرُ هُوَ الظّٰهَرُ هُوَ الْبَاطِنُ اَللّٰهُمَّ
طَهِّرْ قَلْبِيْ عَنِّ غَيْرِكَ وَنَوِّرْ قَلْبِيْ بِنُوْرِ
مَعْرِفَتِكَ اَبَدًا يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ﴾

﴿اسماء الحسنى کے فضائل و اعمال، شفاء القلوب﴾

.....☆.....☆.....

بخار کا علاج

TREATMENT OF FEVER

تیز بخار کی شدت کم کرنے کیلئے یہ آیت مبارکہ اکتالیس بار پڑھ کر مریض پر دم کریں نیز کسی کا غصہ اور ضد ختم کرنے کیلئے بھی یہ آیت اکسیر ہے۔ اول و آخر درود ابراہیمی سات بار پڑھیں ان شاء اللہ ﷻ تیز بخار کم ہوگا۔

In order to control extreme fever recite this Ayat-E-Mubarka 41 times over patient. Even this Ayat is beneficial for anger as well. Recite Darood-E-Ibrahimi 7 times in the beginning and ending. Inshah Allah you will become healthy.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
﴿يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰی
اِبْرٰهِيْمٍ ۝﴾

﴿پارہ نمبر 17، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 69﴾

.....☆.....☆.....

ظالم شخص کیلئے وظیفہ

WAZIFA FOR CRUEL PERSON

ایسے جابر و ظالم شخص کو مقررہ جگہ سے نکالنے کے لئے یہ وظیفہ کریں جو کہ شرعی طور پر حاکمیت کے قابل نہ ہو اور اللہ کی مخلوق اس سے تنگ آگئی ہو اس کے لئے اپنے مکان کی علیحدہ جگہ پر جمعہ کی رات کو بعد نماز عشاء با وضو ایک ہزار بار ﴿سورہ فیل﴾ پڑھیں اور اس طریقے سے نبی کریم ﷺ پر صلوٰۃ و سلام بھیجیں جو یہ ہے:

This wazifa must be done for that cruel person/ emperor who is not capable enough for such post. For this choose a seperate place in your home and recite (Surat Feel) 1000 times (ba-wazoo halat mein) after Isha Prayer Recite Darood-E-Ibrahimi in the beginning and ending.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِهِ وَ صَحْبِهِ وَسَلَّمَ﴾

سو بار پڑھنے کے بعد یہ کلمات تین بار پڑھیں:

After recitation 100 times, recite these kalmaat 3 times.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنِّي اَسْتَجِيرُ بِكَ مِنْ
ظَلْمِ فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ فَخُذْ لِي حَقِّي مِنْهُ﴾

اگر وہ شخص خواہ امیر ہو یا حاکم ہو غرضیکہ کوئی بھی شخص ہو جس کو نکالنا ہو، اس کے لئے یہ وظیفہ کریں۔ تو اس شخص پر ایسا عذاب نازل ہوگا۔ جس سے اس کا جینا و سنبھلنا مشکل ہو جائے گا جہاں وہ ہے۔ آخر کار اس جگہ سے یا اس نوکری سے یا درجے سے معزول ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ صحیح و مجرب ہے۔

نوٹ: ناجائز نہ کریں۔

If that person is rich or cruel emperor even whatever this person is, this wazifa is applicable. He will become the victime of disaster which is so harmful for him. At last, he will loss his job/post. This wazifa is correct and useful.

NOTE: Do not perform for invalid purpose.

.....☆.....☆.....

میاں بیوی میں اتفاق کیلئے

FOR UNDERSTANDING AMONG HUSBAND AND WIFE

میاں بیوی میں نفرت دور کرنے کیلئے اور ان میں اتفاق اور محبت کے لئے جس کو ضرورت ہو وہ اس وظیفہ کو اول و آخر درود ابراہیمی ﴿﴾ بار اور تین سو تیرہ بار بعد نماز فجر یا بعد نماز عشاء مندرجہ ذیل آیت کو اکیس دن تک پڑھے۔ ان شاء اللہ عزوجل میاں بیوی میں محبت اور اتفاق پیدا ہو جائے گا۔

To create love and understanding among husband and wife recite this wazifa 313 times after Fajar or Isha Prayer and recite Darood-E-Ibrahimi 11 times in the beginning and ending. Keep this practice continue for 21 days. Inshah Allah love and understanding will be created among husband and wife.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا

كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾

یہ وظیفہ بار بار تیرہ شدہ ہے صرف صحیح اور جائز محبت کیلئے کرنا چاہیے۔ ورنہ نقصان کا ذمہ دار بنا جائز کرنے والا خود ہوگا۔

﴿پارہ 25 سورہ زخرف آیت نمبر: 13﴾

.....☆.....☆.....

مقاصد کی تکمیل کے لئے وظیفہ

WAZIFA FOR THE COMPLETION OF INTENTION/ MOTIVATION

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راحت و آرام اطمینان و سکون عیش و عشرت، عزت و عظمت اور مال و دولت کی خواہش کیلئے نیز مصیبتوں پریشانیوں، دشمنوں اور تکلیفوں سے محفوظ رہنے کی آرزو ہو تو اسم جلال **اللہ** ایک ہزار مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اس وظیفہ کی شرائط یہ ہیں کہ تنہائی ہو، جب سب لوگ سو جائیں تو رات کو پڑھنا چاہیے پڑھنے والا با وضو ہو اگر غسل کر لیا جائے تو بہتر ہے کپڑے پاک اور صاف ہوں اور اول و آخر ﴿۲۱﴾ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے اور دن رات میں اٹھتے بیٹھتے۔ ﴿يَا كَرِيمُ يَا رَحِيمُ﴾ کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ اس عمل کی برکت سے **اللہ** ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں گے اور ہر قسم کی برائیوں اور تکلیفوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ ﴿يَا حَسْبِيَ يَا قَيُّوْمُ﴾ ایک ہزار مرتبہ دن یا رات میں پڑھنے کا اگر معمول بنا لیا جائے اور ﴿يَا وَهَّابُ﴾ کا ذکر ہر وقت زبان پر رہے یعنی زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے تو یہ وظیفہ

مبارک بھی مذکورہ بالا وظائف کی تاثیر رکھتا ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس وظیفہ کے پڑھنے والے کو بھی وہی نعمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے جو اسم جلالت ﴿اللَّهُ﴾ کے درود رکھنے والے کو ملتی ہیں۔ تمام وظائف کے اول و آخر درود ابراہیمی ضرور پڑھیں۔

﴿از منقولہ حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ عنہ﴾

Hazrat Imam Ghazali رضی اللہ عنہ says that, "in order to obtain satisfaction, peace, luxury, respect, wealth and for the survival of tensions, enemies, and problems recite this Ism-E-Jalalat-Allah 1000 times. This practice (wazifa) must be done in liveness when all the people go for sleep. Dress must be neat and clean and recite Darood-E-Ibrahimi 21 times in the beginning and ending. Keep this practice continue in every time (Day & Night). ﴿يَا كَرِيمُ يَا رَحِيمُ﴾ By following this practice you will get plenty of blessings of Almighty Allah and you will be secured from each and every problem and tension. Make your routine to recite this ﴿يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ﴾ 1000 times in day and night.

Recitation of this ﴿يَا وَهَّابُ﴾ practice must be continued everytime. It means

that, recite it maximum/ for maximum times then this wazifa has also the same effect as the other mentioned wazaif. Whoever will recite this wazifa will get the same blessings of Almighty Allah which you can get from Ism-E-Jalalat. Must recite Darood-E-Ibrahimi in the beginning and ending in all Wazaif.

.....☆.....☆.....

بیٹے کی خواہش کیلئے

FOR THE DESIRE OF SON

اولاد کی نعمت سے محروم میاں بیوی دونوں اللہ ﷻ کی شان پر بھروسہ کرتے ہوئے روزانہ صبح و شام یعنی بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب اکیس بار اس آیت کا وظیفہ کریں اور اللہ ﷻ سے اولاد ہونے کی دعا کریں اول و آخر درود ابراہیمی ﴿۱﴾ بار پڑھیں۔ ان شاء اللہ ﷻ اولاد پیدا ہوگی۔

Those parents who are deprived from children should recite this Ayat 21 times in morning and evening (After Fajar Prayer and after Maghrib Prayer) and then pray to Almighty Allah. Recite Darood-E-Ibrahimi 11 times in the beginning and ending. Inshah Allah their wish / desire of baby will come true.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَ
 بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ
 جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝
 ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَ
 جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَ
 الْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝﴾

ترجمہ: ”وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور پیدائش انسان کی ابتدا مٹی سے فرمائی پھر اس کی نسل رکھی ایک بے قدر پانی کے خلاصہ سے پھر اسے ٹھیک کیا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور پھر تمہیں کان اور آنکھیں اور دل عطا فرمائے کیا ہی تھوڑا حق مانتے ہو۔“

﴿پارہ نمبر 21، سورہ بقرہ، آیت نمبر 7-9﴾

رزق کیلئے آزمودہ دعا

BENEFICIAL DUA

FOR EARNING (RIZK)

یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونوں کے علاقے سے جب ہجرت کر کے

مدین پہنچ گئے تو وہاں درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔
 قریب ہی ایک کنواں تھا جہاں پانی لینے والوں کا ہجوم تھا۔ اس
 ہجوم سے ذرا سے فاصلے پر دو لڑکیاں کھڑی تھیں جو اپنے
 جانوروں کو پانی پلانا چاہتی تھیں لہذا آپ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے ان کے
 لئے پانی نکالا اور پھر یہ دعا مانگی۔

﴿شرح اسماء الحسنى، وظائف و عملیات رزق﴾


This dua was recited by Hazrat Musa عَلَيْهِ السَّلَامُ. When Hazrat Musa عَلَيْهِ السَّلَامُ traveled to Madyan then he sat under the shadow of tree. Nearly it was a well where people were gathered for water and two girls were standing near to this crowd. The girls wanted some water for their animals. So, Hazrat Musa عَلَيْهِ السَّلَامُ took water for them and then recited this dua.

لہذا جو شخص سفر میں بھوکا پیاسا ہو اور کھانے کے لئے کچھ نہ ملے
 تو اگر وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دے تو جلد ہی اس
 کے قیام و طعام کا بندوبست ہو جائے گا اور ان شاء اللہ عَزَّ وَجَلَّ اس
 آیت کے ورد سے وہ بھوکا نہیں مرے گا۔

Therefore, if any person feels hunger and thirst during travel then he should recite this dua plenty of times. Then, he will obtain reasonable arrangements of his required necessities and Inshah Allah he will not die from thirst and hunger.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 ﴿رَبِّ اِنِّیْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیْرٌۙ﴾
 ترجمہ: ”اے میرے رب جو کچھ تو نے مجھے نیکی کی توفیق دی
 ہے میں اس کا طلب گار تھا۔“

﴿پارہ: 20، سورۃ القصص: آیت نمبر 24﴾



حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیلئے

FOR THE ZAYARAT OF PROPHET

MUHAMMAD ﷺ

شان رسالت حضرت محمد ﷺ کی خواب میں زیارت کے
 خواہشمند حضرات رات کو سوتے وقت اس آیت کو دو سو ﴿۲۰۰﴾
 بار پڑھیں اللہ ﷻ کے فضل و کرم سے خواہش پوری ہوگی۔ اول
 و آخر درود ابراہیمی گیارہ بار لازمی پڑھیں اس وظیفہ کو اکیس دن
 تک جاری رکھیں۔

For the zayarat of Prophet
 Muhammad ﷺ recite two tasbeeh of
 this Ayat before sleep. By the grace of
 Almighty Allah wish/ desire will come
 true. Must recite Darood-E-Ibrahimi 11

times in the beginning and ending and keep this practice continue for 21 days.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلٰی
النَّبِیِّ ط یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ

وَ سَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا﴾

﴿پارہ نمبر 22، سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 56﴾

.....☆.....☆.....

رزق کیلئے وظیفہ

WAZIFA FOR EARNING (RIZK)

اس وظیفے کو جمیع حاجات و مہمات اور کشادگی رزق کے لئے اس طرح پڑھیں کہ جمعہ کے دن غسل کر کے اول وقت نماز عصر پڑھیں۔ پھر دو زانوں ہو کر بیٹھیں اور ﴿سورۃ واقعہ﴾ ایک بار بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے ساتھ پڑھیں اور دوسرے روز دو مرتبہ اور تیسرے روز تین مرتبہ۔ اس طرح سے ہر روز بڑھاتے جائیں یہاں تک کہ چالیسویں روز چالیس بار ہو جائے اور مغرب تک پوری ہو جائے اول و آخر درود ابراہیمی ﴿۱﴾ بار پڑھیں اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو نماز عصر سے پہلے شروع

کریں اور جب عصر کا وقت آئے تو نماز پڑھ کر پھر پڑھیں یہ
وظیفہ مجرب اور آزمودہ ہے۔

﴿ازمنقولہ حضرت امام غزالی رضی اللہ عنہ﴾

Recite this wazifa for desires and for the expansion of earning (rizk). Recite this wazifa on Friday initial time of Asar Prayer. Then sit down properly and recite (Surah Waqia) one time with ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ and recite 2 times on second day and 3 times on third day and keep this practice continue until 40th day. Recite Darood-E-Ibrahimi 11 times in the beginning and ending if it is not possible then it can also be initiated before Asar Prayer. At the time of Asar Prayer offer Nimaz-E-Asar and after Nimaz-E-Asar keep the wazifa continue This wazifa is useful and beneficial.

☆.....☆.....
برکت و رحمت کیلئے دُعا

DUA FOR BLESSINGS

اس مبارک دعا کی برکت و رحمت سے اللہ ﷻ اپنے پڑھنے
والے بندہ کو اپنے فضل و کرم اور رحمتِ کاملہ و تامہ کے صدقہ میں ہر

ہر چیز میں، ہر ہر کام میں، زیادہ سے زیادہ خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اس دعا کو کثرت سے یا اکتالیس بار روزانہ پڑھنا چاہیے اور آخر درود ابراہیمی ﴿اللہ﴾ بار پڑھیں۔ یہ دعا انتہائی مفید ہے اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے معمولات میں شامل رہی ہے۔

In response to this Mubarik Dua Almighty Allah gives each and everything to his man (person). This dua should be recited plenty of times or 41 times daily with Darood-E-Ibrahimi 11 times in the beginning and ending. This dua is extremely beneficial and it was an important part of Aulia Karam ﴿رحمۃ اللہ علیہم اجمعین﴾ routine life.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
﴿يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا اِلٰهَ الْاِنْسَانِ يَا حَنَّانُ
يَا مَنَّانُ يَا بَدِيعَ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ
يَا ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اَسْئَلُكَ اَنْ تُحْيِيَ
قَلْبِيْ بِنُوْرِ مَعْرِفَتِكَ يَا اِلٰهَ يَا اِلٰهَ﴾

﴿وظائف اولیاء﴾

.....☆.....☆.....

فائدہ مند عمل

BENEFICIAL PRACTICE

ہر جائز مقصد کے لئے چار رکعت نماز دو رکعت کر کے اس طریقہ سے

پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون دس ﴿۱۰﴾

مرتبہ آیت الکرسی دس ﴿۱۰﴾ بار اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد

سورہ اخلاص دس ﴿۱۰﴾ مرتبہ اور آیت الکرسی دس ﴿۱۰﴾ مرتبہ پڑھ کر سلام

پھیریں اور پھر عاجزی اور انکساری سے اکیس ﴿۲۱﴾ بار یہ دعا پڑھیں۔

For each and every valid motive offer four Rakat Nimaz (must be done separately 2, 2 rakat). In first rakat recite Surat Kafroon 10 times and Ayat-Ul-Kursi 10 times after Surat Fatiha. In second rakat, recite Surat- Ikhlas 10 times and Ayat-Ul-Kursi 10 times after Surat Fatiha. Then recite this dua 21 times will full of humbleness.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ أَبَدًا أَبَدًا سُبْحَانَ اللَّهِ

الْوَّاحِدِ الْأَحَدِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْفَرْدِ الصَّمَدِ

سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ
بِغَيْرِ عَمَدٍ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ بِحَقِّ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿

اس کے بعد دوسری دو رکعتیں شروع کریں اور اس میں پہلی

رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکوین دس ﴿۱۰﴾ مرتبہ اور

آیت الکرسی تین ﴿۳﴾ مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے

بعد سورہ قدر اور سورہ زلزلا تین تین ﴿۳﴾ مرتبہ اور آیت الکرسی

ایک ﴿۱﴾ مرتبہ پڑھیں نماز سے فارغ ہو کر سجدہ میں جا کر سات

﴿۷﴾ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد سجدہ سے سر اٹھا کر

دس ﴿۱۰﴾ بار ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ اور


درود ابراہیمی ایک سو ایک ﴿۱۰۱﴾ بار پڑھ کر اللہ ﷻ سے دعا

مانگے۔ ان شاء اللہ ﷻ اس وظیفہ کی بدولت بہت جلد دعا قبول ہوگی۔

﴿معمولات اولیاء وظائف اولیاء﴾

After this, start next two rakat. In the first rakat, recite Surat Takasar 10 times and Ayat-Ul-Kursi 3 times after Surat Fatiha. In second rakat, recite Surat Qadar and Surat Zilzal 3 times, and Ayat-Ul-Kursi 1 time after Surat Fatiha.

After such prayer (Nimaz) go for sajda and recite Darood-E-Ibrahimi 7 times and after sajda recite ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ 10 times and Darood-E-Ibrahimi 101 times then pray to Almighty Allah. Inshah Allah your wish will come true.



بیٹی کی شادی کیلئے

FOR THE MARRIAGE OF DAUGHTER

جس گھر میں بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کسی وجہ سے نہ ہو رہا ہو، تو والدہ یا والد یا بیٹی یا بیٹا خود اپنی حاجت پوری کرنے کیلئے روزانہ اس آیت مبارکہ کو تین سو تیرہ بار اول و آخر درود ابراہیمی گیارہ بار کہ ﴿۲۱﴾ دن تک پڑھتے رہیں۔ ان شاء اللہ ﷻ جلد ہی اچھے رشتہ کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔

If there is any problem regarding daughter's marriage then father, mother, daughter or son should recite this Ayat Mubarka 313 times for 21 days. Recite Darood-E-Ibrahimi 11 times in the beginning and ending as well. Inshah Allah such problems will be solved.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ
نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾

﴿پارہ نمبر 19، سورۃ الفرقان، آیت نمبر 54﴾

.....☆.....☆.....

برائے استخارہ

FOR ISTIKHARA

بعد از نمازِ عشاء دو نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں اور پھر ان
آیات کو ﴿۱۰۱﴾ مرتبہ پڑھ کر کسی سے بات کہنے بغیر سو جائیں۔
اس عمل کو گیارہ دن تک جاری رکھیں ان شاء اللہ ﷻ جو بھی مقصد
ہوگا خواب میں معلوم ہو جائے گا


After Isha Prayer offer two nafal as Istikhara and recite this Ayat 101 then go for sleep without saying anything to anyone else. Keep this practice continue for 11 days. Inshah Allah you will get the results in your dream.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۗ إِنَّهُ

عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ
خَلَقَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝ ﴿

﴿پارہ نمبر 29، سورۃ الملک، آیت نمبر 13-14﴾



جائز خواہشات کیلئے

FOR VALID DESIRES


ہر جائز خواہش کیلئے جس میں کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو اس کو پورا
کرنے کیلئے یہ آیات مبارکہ ﴿۳۱۳﴾ مرتبہ پڑھیں۔ اول و آخر گیارہ
بار درود ابراہیمی پڑھیں ان شاء اللہ ﷻ جلد مراد پوری ہوگی۔

For every valid desire recite this Ayat-
E-Mubarka 313 times. Recite Darood-E-
Ibrahimi 11 times in the beginning and
ending. Insha Allah your wish will come
true.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۝ بِنَصْرِ اللَّهِ ۖ يَنْصُرُ مَنْ
يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝﴾

﴿پارہ نمبر 21، سورۃ الروم، آیت نمبر 4-5﴾



موزی بیماریوں سے بچاؤ کیلئے

FOR THE SURVIVAL OF EXTREME DISEASES

ہر مسلمان کو چاہئے کہ سرطان، طاعون، پھوڑے پھنسی سے بچاؤ
کیلئے ان اسماء مبارکہ کو صبح و شام ﴿۲۱﴾ مرتبہ پڑھتا رہے اللہ ﷻ
کے فضل و کرم سے وہ ان موزی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔

Every muslim should recite this Isma
Mubarak 21 times in morning and
evening. He will be secured from such
diseases by the grace of Almighty Allah.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
﴿يَا اللّٰهُ، يَا مَلِكُ، يَا قُدُّوسُ، يَا سَلَامُ﴾

.....☆.....☆.....

حاجت کا وظیفہ

WAZIFA FOR NEED/WANT (HAJAT)

حاجت روائی کے لئے نماز ظہر ادا کرنے کے بعد ذیل کا وظیفہ
ایک سو ایک ﴿۱۰۱﴾ بار سات دن تک پڑھنا مجرب ہے۔ اول و آخر

درود ابراہیمی ﴿اللہ﴾ بار پڑھیں۔

For need/ want (Hajat) recite this wazifa 101 times for 7 days after Zohar Prayer. Recite Darood-E-Ibrahimi 11 times in the beginning and ending.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ﴾

﴿دنیاوی پریشانیوں کا روحانی علاج﴾

.....☆.....☆.....

دنیا و آخرت میں نعمت کی خواہش کیلئے

**FOR THE DESIRE OF BLESSINGS
IN THIS LIFE AND ETERNAL LIFE**

جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ دنیا میں ہر نعمت سے لطف اندوز ہو اور پھر آخرت میں بھی اللہ ﷻ سے کسی نعمت سے محروم نہ کرے تو اسے چاہئے کہ وہ اس آیت مبارکہ کو صبح و شام سات بار پڑھنے کا اپنا معمول بنالے۔ دین و دنیا میں ہر نعمت سے مالا مال رہے گا۔ یہ بھی شرط ہے کہ نیک کام کرے اور دین اسلام پر ثابت قدم رہے۔

If a person has desire of Allah's blessings in this world and in the next world (eternal life) then he should recite this Ayat 7 times daily in morning and evening. He also needs to follow religious Islam.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ۖ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ۖ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشُّرَبِيِّينَ ۖ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ﴾

﴿پارہ نمبر 26، سورۃ محمد، آیت نمبر 15﴾

.....☆.....☆.....

آمدنی میں اضافہ کیلئے عمل

FOR THE EXPANSION IN

INCOME / EARNING

بعض لوگوں کی آمدن انتہائی قلیل ہوتی ہے اور انہیں سفید پوشی میں گزارہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو جب کسی کی آمدن قلیل ہو

اور وہ اپنے اہل و عیال کی اچھی طرح کفالت نہ کر سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ فجر کی نماز باقاعدگی سے پڑھے۔ اس کے بعد اس آیت کی ایک سو اکیس مرتبہ تلاوت کرے اور اس کے بعد دعائے مانگے کہ

اللَّهُمَّ اس کی آمدن میں اضافہ فرما دے۔ اگر اللہ ﷻ کو منظور ہوا تو اللہ ﷻ اس کی روزی میں خیر و برکت پیدا کر دے گا اور اس کی آمدنی میں اضافے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس مقصد کیلئے پڑھائی کو طویل عرصہ کے لئے جاری رکھا جائے۔

Some people are spending difficult life due to lower income. Therefore, if anyone has this problem and he is not capable enough to fulfill the basic necessities of his family then he should regularly offer Fajar Prayer. After this recite this Ayat 121 times then go for pray, Almighty Allah will increase his income. For such purpose keep this practice continue for long time.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ إِنْ أَرَادَ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ
يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝﴾

ترجمہ: ”فرمادیتے ہیں کہ فضل اللہ ﷺ کے ہاتھ میں ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ ﷻ وسعت والا علم والا ہے۔ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے مخصوص کر لیتا ہے اور اللہ ﷻ عظیم فضل والا ہے۔“

﴿پارہ: 3، سورۃ آل عمران آیت نمبر: 73-74﴾

.....☆.....☆.....

نمازِ حاجت

NIMAZ-E-HAJAT

سب مشکلات و مصائب سے چھٹکارا حاصل کرنے کیلئے صلوة الحاجت بہت مفید ہے۔ اس نماز کا پریشانی کی حالت میں پڑھنا بہت مفید ہے۔

For each and every problem and tension Nimaz-E-Hajat is extremely beneficial. This Nimaz is so much beneficial for tensions.

اس کا طریقہ یوں ہے کہ نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد جو دو رکعت نفل ہوتے ہیں انہیں اس طرح سے ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص گیارہ ﴿۱۱﴾ بار پڑھیں بعد از سلام پہلے درود ابراہیمی گیارہ بار پڑھیں اور یہ وظیفہ ﴿۳۱۳﴾ بار پڑھیں۔

The procedure of this Nimaz is to offer 2 Rakat Nafal after Maghrib or Isha Prayer and recite Surat Ikhlas 11 times after Surat Fatiha in every Rakat. After Salam recite Darood-E-Ibrahimi 11 times and repeat this wazifa 313 times.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿يَا مُغِيثُ اغْنِنِي﴾

پھر آخر میں درود ابراہیمی گیارہ بار پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے مقصد اور حاجت کے لئے دعا کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی نصیب ہوگی اور پریشانی دور ہوگی بہتر یہ ہے کہ اس عمل کو نماز مغرب کے بعد کریں۔

In last, recite Darood-E-Ibrahimi 11 times. After this pray for your purpose Insha Allah each and every tension will be solved. It is better to perform this practice after Maghrib Prayer.

.....☆.....☆.....

شوگر کیلئے وظیفہ

WAZIFA FOR DIABETES

شوگر کی موذی بیماری میں مبتلا حضرات اس دُعا مبارکہ کو ﴿۴۱﴾ مرتبہ روزانہ پڑھا کریں۔ نماز کی پابندی کریں اللہ ﷻ کے فضل و کرم سے فائدہ ہوگا۔

Those people who are suffering from diabetes recite this Ayat 41 times daily and offer your five times prayers. You will get benefit by the grace of Almighty Allah.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ
وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجِ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ
مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا﴾

ترجمہ: ”اے میرے رب مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح

باہر لے جا اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے۔“

﴿پارہ نمبر 15، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 80﴾

.....☆.....☆.....

مسائل کے حل کیلئے وظیفہ

WAZIFA FOR THE SOLUTION OF PROBLEMS

کیسی ہی سخت مشکل درپیش ہو جو حل نہ ہوتی ہو اور ہر دنیاوی

تدبیر نا کام ہو گئی ہو تو ایسی حالت میں ذیل کا عمل بے حد مفید ہے

For each and every problem this Wazifa is so much beneficial.

اس مقصد کے لئے نئے چاند کے پہلے جمعہ کی شب نماز عشاء

کے بعد گیارہ مرتبہ ﴿سورۃ محمد﴾ ﴿صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ اول و آخر درود

ابراہیمی اکیس بار پڑھے۔ اب دو رکعت نماز نفل بہ نیت حل

المشکلات اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں ﴿سورۃ فاتحہ﴾ کے بعد

ایک مرتبہ ﴿سورۃ الاعلیٰ﴾ پڑھے۔ پھر سلام پھیر کر اپنے مقصد

کے لئے بارگاہ خداوندی میں عاجزی و انکساری سے دعا

مانگے۔ اگر سورت الاعلیٰ یاد نہ ہو تو سورۃ اخلاص پڑھے۔

﴿نوافل سے پریشانیوں کا حل﴾

For such purpose before new moon on Friday night after Isha Prayer recite (Surat Muhamamd صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) 11 times and

recite Darood-E-Ibrahimi 21 times in the beginning and ending. Then offer 2 Rakat Nimaz-E-Nafal and recite (Surat Al-Aala) one time after (Surat Fatiha) in every Rakat. After Salam pray to Almighty Allah for your purpose with humbleness. You can also recite Surat Ikhlas instead of Surat Al-Aala.

سات جمعہ تک اس عمل کو بلا ناغہ کرنے سے ان شاء اللہ عزوجل کیسی ہی مشکل کیوں نہ ہو حل ہو جائے گی اور اس سے چھڑکارا حاصل ہو جائے گا۔

Insha Allah your problems will be solved in 7 Fridays.

.....☆.....☆.....

گمشدہ چیز ملنے کا عمل

PRACTICE FOR THE LOSS OF AN ITEM (GUMSHUDA CHEEZ)

گمشدہ چیز یا مال کو واپس لانے کے لئے یہ وظیفہ بہت مؤثر ہے
ان شاء اللہ عزوجل گمشدہ چیز یا مال جلد واپس مل جائے گا۔ اس آیت
مبارکہ کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ﴿يَا حَفِيظُ﴾

﴿۱۱۹﴾ مرتبہ پڑھ کر پھر اس آیت مبارکہ کو پڑھے۔

If you losses an item then this practice is so much beneficial. Insha Allah you will receive your every item. First of all, recite ﴿يَا حَفِيظُ﴾ 119 times then recite this Ayat-E-Mubarka.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿يَبْنِيْ اِنَّهَا اِنْ تَكَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ
خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي
السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يٰٓاْتِ بِهَا
اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِیْفٌ خَبِیْرٌ﴾

﴿پارہ ۲۱، سورۃ لقمان آیت: ۱۶﴾

اول و آخر درود ابراہیمی گیارہ بار پڑھے جب تک گمشدہ چیز
یا مال واپس مل نہ جائے عمل جاری رکھے۔ ان شاء اللہ عزوجل یا وہ
چیز یا کوئی اس سے بہتر چیز مل جائے گی۔

Recite Darood-E-Ibrahimi 11 times in the beginning and ending. Keep this practice continue until you achieve your purpose. Insha Allah you will get success.

.....☆.....☆.....

دُشمن سے بچاؤ کیلئے

FOR THE SURVIVAL OF ENEMY

اگر کسی شخص کو ہر وقت اپنے دشمن سے خوف لگا رہتا ہو یا اس کی دشمنی کسی سے بڑھتی جا رہی ہو تو دشمن سے بچاؤ کیلئے اس آیت مبارکہ کو ﴿۱۰۱﴾ مرتبہ روزانہ پڑھیں ان شاء اللہ عزوجل دشمن سے نجات حاصل ہوگی۔

If a person has feared from his enemy then recite this Ayat 101 times daily. Insha Allah you will become secured from your enemy.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿اِنَّ اللّٰهَ یُدْفِعُ عَنِ الدِّیْنِ اٰمَنُوۡا ط اِنَّ

اللّٰهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ خَوّٰنٍ کَفُوۡرٍ ۝﴾

ترجمہ: ”بے شک اللہ عزوجل بلائیں مالتا ہے مسلمانوں کی بے

شک اللہ عزوجل دوست نہیں رکھتا ہر بڑے دغا باز ناشکرے کو۔“

﴿پارہ نمبر 17، سورۃ الحج، آیت نمبر 38﴾

.....☆.....☆.....

بُرے شخص کی اصلاح کیلئے

FOR THE CORRECTION/

RECTIFICATION OF BAD PERSON

جو شخص راہِ حق سے بھٹک کر بُرے معاملات میں پڑ گیا ہو اور وہ
 اللہ ﷻ کے احکامات پر عمل نہ کر رہا ہو تو اس آیت مبارکہ کو روزانہ
 ﴿۱۰۱﴾ مرتبہ پانی پر دم کر کے اُسے پلائیں۔ ان شاء اللہ عزوجل
 بُری عادت والے شخص کی بہتر اصلاح ہو جائے گی اور اسے
 اللہ ﷻ کی طرف سے ہدایت نصیب ہوگی۔


Recite this Ayat-E-Mubarka 101 times over water and present this water to that person who requires improvement. Insha Allah his bad habits will be changed and Almighty Allah will give him the right way of success.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ﴾

ترجمہ: ”اور تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں کہ تو ڈرے۔“

﴿پارہ نمبر 30، سورۃ النزلت، آیت نمبر 19﴾



دُکھ پریشانی کیلئے

FOR SORROWS AND TENSIONS

اگر کوئی مسلمان کسی وجہ سے کسی امتحان میں مبتلا ہو یا کسی شخص کی وجہ سے دُکھی ہو تو وہ اس آیت مبارکہ کو ﴿۱۰۱﴾ ایک سو ایک بار گیارہ دن تک پڑھے۔ ان شاء اللہ عَزَّوَجَلَّ ہر دُکھ ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اول و آخر درود ابراہیمی سات بار پڑھے:

If a person confronting sorrows and tensions then he should recite this Ayat-E-Mubarka 101 times for 11 days. Insha Allah each and every tension will be solved. Recite Darood-E-Ibrahimi 7 times in the beginning and ending.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾

ترجمہ: ”سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا۔“

﴿پارہ نمبر 13، سورۃ الرعد، آیت نمبر 24﴾

.....☆.....☆.....

شادی کیلئے وظیفہ

WAZIFA FOR MARRIAGE

اگر کسی پڑھے لکھے نوجوان کو اچھی اور مناسب لڑکی کا رشتہ نہ ملتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں ایک جگہ مقرر کر لے اور اُسے پاک و صاف کرے۔ پھر وہاں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پاکیزہ لباس پہنے ہوئے با وضو حالت میں مندرجہ ذیل آیت کو ﴿۱۳۳﴾ مرتبہ چالیس یوم تک پڑھے اور روزانہ پڑھائی کے آخر میں اللہ ﷻ کے آگے نیک خوش و اخلاق عورت سے شادی ہونے کی دعا کرے۔ اللہ ﷻ دعا قبول فرمانے والا ہے۔ ایک ولی اللہ کا قول ہے کہ اگر کوئی والد یا والدہ یہ چاہتے ہوں کہ اس کی بیٹی یا بیٹے کی شادی جلد ہو جائے تو اسے چاہیے کہ با وضو حالت میں اس آیت کو سفید کاغذ پر لکھے اور سات روز تک اسی آیت کا ایک سو مرتبہ ورد کر کے اس آیت کو کپڑے میں لپیٹ کر لڑکی یا لڑکے کے دائیں بازو پر باندھ دے اور اللہ ﷻ سے جلد از جلد شادی کی التجا کرے۔ ان شاء اللہ ﷻ جلد نیک اور اچھی جگہ شادی ہو جائے گی اگر کوئی شخص بے سہارا ہے یا انتہائی


غریب ہے اور اس غربت کی وجہ سے اس کی شادی نہ ہوتی ہو تو اسے چاہیے کہ اس آیت کو چالیس یوم تک روزانہ ہر نماز کے بعد ﴿۳۳﴾ مرتبہ پڑھنے کا معمول بنالے تو اللہ ﷻ اس کے حال پر مہربانی فرمائے گا اور اس کی شادی کا کوئی سبب پیدا ہو جائے گا۔

If an educated person fails to find an appropriate girl for marriage then he should determine a clean place in his house. Then after Isha Prayer recite this Ayat 133 times for 40 days in neat and cleat dress. After this practice pray to Almighty Allah for his marriage with a pious girl. It is said by Allah's man (Wali Allah ﷻ) that if a father or mother wants early marriage for his/ her son or daughter then he/ she should write this Ayat on white paper and recite this Ayat 100 times for 7 days. After this bind this Ayat in white cloth and place it on the right arm of girl or boy. Insha Allah early marriage will be settled. If a person is deprived from marriage because of poverty then he should recite this Ayat 33 times for 40 days after every Nimaz. Then his marriage will also be settled.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا
مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۗ
وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝ وَأْمُرْ أَهْلَكَ
بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا
نَحْنُ نَنْزِقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ۝﴾

﴿پارہ: 16 سورہ طہ آیت: 131-132﴾



ہر مقصد کیلئے ایک خاص دُعا

**A SPECIAL DUA FOR EVERY
MOTIVE**

جس شخص کا دل کسی خاص جگہ سے وابستہ ہو یا کوئی چیز گم ہو
گئی ہو یا اس کا ارادہ کسی سے محبت و ملاقات کا ہو تو اس امر کا پختہ
یقین کرے کہ اللہ ﷻ ہر شے پر قادر ہے۔ سچی نیت سے توی
امید کے ساتھ اس دعا کو پڑھے تو بے شک اللہ ﷻ اس کو
مطلوب سے ملا دے گا۔ یہ دُعا عجیب تاثیر رکھتی ہے۔

If a person's heart is involved at a special place or if he losses an item or intended for love/ meeting to someone. Then he should always keep in mind that Almighty Allah is greatest and the owner of (owned) each and everything in this universe. Recite this Dua with true hearth Insha Allah Almighty Allah will give him success. This Dua has strange effects. This Dua is:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿اللَّهُمَّ يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ اجْتَمَعَ بَيْنِي وَ
بَيْنَ كَذَا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

﴿اسرار کا کی﴾

.....☆.....☆.....

الزام سے بچاؤ کیلئے

**FOR THE SURVIVAL
OF ACCUSE/ INDICT**

کسی الزام یا کسی بہتان سے اگر کسی شخص کی عزت خطرے میں
ہو تو وہ اس آیت مبارکہ کو صبح و شام ﴿۴۱﴾ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر

پھونک مارے۔ اللہ اپنے پاک کلام کی برکتوں سے ہر مسئلے کا حل فرمادے گا اول و آخر و برابر ایسی تین بار لازمی پڑھیں۔

﴿قرآنی مستجاب دعائیں﴾

For the survival of accuse recite this Ayat-E-Mubarka 41 time in morning and evening. Almighty Allah will solve each and every problem must recite Darood-E-Ibrahimi 3 times in the beginning and ending.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِیْعًا ۗ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝﴾

ترجمہ: ”اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو بے شک عزت ساری اللہ کیلئے ہے وہی سنتا جانتا ہے۔“

﴿پارہ نمبر 11، سورۃ یونس، آیت نمبر 65﴾

.....☆.....☆.....

برائے استخارہ

FOR ISTIKHARA

یہ استخارہ کرنے کیلئے با وضو حالت میں دو رکعت نماز نفل اس

طرح سے ادا کریں کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سات

مرتبہ ﴿سورۃ التکاثر﴾ اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد
پانچ مرتبہ ﴿سورۃ اخلاص﴾ پڑھیں سلام پھیرنے کے بعد سجدہ
میں جا کر گیارہ مرتبہ یہ کلمات مبارکہ پڑھیں۔

For this Istikhara recite 2 Rakat
Nimaz-E-Nafal (Ba-Wazoo-Halat-Mein).
Recite (Surat Al-Takasar) 7 times after
(Surat Fatiha) and recite (Surat Ikhlas) 5
times after (Surat Fatiha). After Salam
go for Sajda and recite these Kalamat-E-
Mubarka.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿يَا اَحَدُ يَا وَاَحِدُ يَا صَمَدٌ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمٌ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ﴾

اس کے بعد اپنے مقصد کی دعا مانگیں۔ پھر اپنے دل کو اس کام کی
طرف متوجہ کریں اگر اس کام نے ہونا ہے تو دل خود بخود اس کی طرف
مائل ہو جائے گا اور اگر نہیں ہونا تو دل اس سے بددل ہوگا اور وہیں اپنا
ارادہ ختم کر دے گا۔ یہ استخارہ اپنے کسی خاص مقصد کیلئے کریں۔

After this pray for your purpose. Then
put your complete concentration towards
your purpose. If it's not happening then
do not be dishearten and leave your
purpose. This practice must be done for
your special purpose.

مخالفین سے اپنا حق لینے کا وظیفہ

WAZIFA TO TAKE RIGHT FROM OPPONENT

اگر کسی شخص نے کسی کا حق مارا ہو یعنی رقم دینی ہو یا زمین دینی ہو خواہ کوئی بھی چیز منسوب ہو تو اپنا حق لینے کے لئے یہ وظیفہ بہت کارآمد ثابت ہوا ہے اور یہ وظیفہ اکیس روز میں مکمل ہوتا ہے مخالف ان شاء اللہ ﷻ اس دوران پڑھنے والے کا حق واپس کر دے گا اس وظیفہ کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ یہ وظیفہ اور اول و آخر درود ابراہیمی گیارہ بار پڑھے:

This practice is so much beneficial to take your right back from your opponent. This practice is completed in 21 days. Insha Allah the opponent will give the right back to the deserving person in this period of time. After Isha Prayer recite this Wazifa 313 times and recite Darood-E-Ibrahimi 11 times in the beginning and ending.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿يَا جَبَّارُ يَا قَاهِرُ يَا ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيدِ خُذْ
حَقِّي مِمَّنْ ظَلَمَنِي وَتَعَدَى عَلَيَّ﴾

.....☆.....☆.....

اچھی محفل کیلئے

**FOR GOOD GATHERING/
ASSEMBLY (MAJLIS)**

روحانی اور اچھی محفل میں جس کے پاس کوئی ایسا شخص بیٹھ
جائے جس کا بیٹھنا ناگوار گزر رہا ہو تو مندرجہ ذیل عمل کو آہستہ
آہستہ دل میں پڑھ لے۔ وہ نامناسب شخص جلد اٹھ جائے گا۔

If a person sits in a gathering whose
sitting is disgusting then recite the
following in your heart. That person will
be left away:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿تَذَرُوهُ الرِّیَاءَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ
شَیْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ

إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۝ يَوْمَئِذٍ يُصْدِرُ النَّاسُ
أَشْتَاتًا ۖ أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ۖ ﴿١٠١﴾

.....☆.....☆.....

بلڈ پریشر سے نجات کیلئے

FOR THE SURVIVAL
OF BLOOD PRESSURE

بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا حضرات اس آیت مبارکہ کو

﴿١٠١﴾ مرتبہ روزانہ پڑھا کریں ان شاء اللہ عَزَّوَجَلَّ شفا نصیب

ہوگی۔ اول و آخر درود ابراہیمی گیارہ بار پڑھیں:

Those people who are suffering from blood pressure recite this Ayat-E-Mubarka 101 times daily. Insha Allah you will get satisfaction. Recite Darood-E-Ibrahimi 11 times in the beginning and ending.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ

النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝﴾

ترجمہ: ”اور رنج میں غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر

کرنے والے اور نیک لوگ اللہ ﷻ کے محبوب ہیں۔“

﴿پارہ نمبر 4، سورۃ آل عمران، آیت نمبر 134﴾

داغ دھبہ کے نشان کیلئے

FOR MARK / STAIN REMOVING

کسی کے بدن پر ناسور ہو یا کوئی داغ دھبہ ہو تو ﴿۴۱﴾ مرتبہ دوا یا مرہم پر یہ آیت مبارکہ پڑھ کر دم کر کے استعمال کریں۔ ان شاء اللہ ﷻ داغ دھبہ دور ہو جائے گا۔

If there is a stain in the body of anyone then he should recite this Ayat 41 times over medicine. Insha Allah each and every stain or mark will be removed.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿مُسَلَّمَةٌ لَا شَيْءَ فِيهَا﴾

ترجمہ: ”بے عیب ہے، کوئی داغ نہیں اس میں“۔

﴿پارہ نمبر 1، سورۃ البقرہ، آیت 71﴾

.....☆.....☆.....

جادو کے علاج کیلئے

FOR THE TREATMENT OF MAGIC

اگر کسی شخص پر کسی آدمی نے جادو کر دیا گیا ہو جس کے باعث وہ مرض میں مبتلا ہوتا جا رہا ہو تو وہ شخص یہ عمل اس طرح کرے کہ

ساتھ بار بار وضو حالت میں ﴿سورہ فلق﴾ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئے تو اللہ ﷻ کے فضل و کرم سے چند دنوں میں ہی جادو کا اثر زائل ہو جائے گا اور اسے صحت ہوگی۔

If a person is confronting any disease due to magical effects/ magic. Then he should perform wazoo (ablution) 60 times then recite (Surat Falaq) over water. Insha Allah by the grace of Almighty Allah each and every effect of magic will be finished.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّٰثِۃِۙ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝﴾

.....☆.....☆.....

گردے کا آزمودہ علاج

USEFUL TREATMENT OF KIDNEY

گردے اور پتے کی پتھری دُور کرنے کیلئے یہ آیات مبارکہ ﴿۱۰۱﴾ مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اُس وقت تک پیئیں جب تک شفاء نہ ہو۔ اول و آخر درود شفاء اکیس بار پڑھیں لا تعداد مریض اس عمل سے شفاء یاب ہوئے ہیں

For the treatment of kidney recite these Ayaat-E-Mubarka 101 times over water and use this water until you become healthy. Recite Darood-E-Shifa 21 times in the beginning and ending.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿وَإِنْ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ

الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشْقُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ

الْمَاءُ ۚ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ


وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۱﴾

ترجمہ: ”اور بیشک بعض پتھروں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور

بیشک ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں تو نکلتا ہے ان سے

پانی، اور ان میں سے بعض اللہ ﷻ کے ڈر سے گر پڑتے
ہیں، اور اللہ ﷻ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔

﴿پارہ نمبر 1، سورۃ البقرہ، آیت 74﴾



بیٹی کی شادی کیلئے وظیفہ

WAZIFA FOR THE MARRIAGE OF DAUGHTER

بعض اوقات بیٹی یا بیٹے کے لئے اچھے اور مناسب رشتے کا
ملنا دشوار ہو جاتا ہے جس سے والدین کو سخت پریشانی ہوتی ہے
اور نہ ہی کوئی شادی ہونے کا ذریعہ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسی
صورت حال میں اللہ ﷻ کو اس آیت کے ذریعے پکارنا چاہیے
بچے یا بچی کے لئے مناسب جگہ پر شادی کے لئے اس آیت
مبارکہ کو عشاء کی نماز کے بعد روزانہ چالیس یوم تک ﴿۳۱۳﴾
مرتبہ پڑھا جائے اول و آخر دو برابر ایسی گیارہ بار پڑھیں اور
روزانہ پڑھائی کے بعد اللہ ﷻ کے حضور دعا مانگی جائے۔ اگر
اللہ ﷻ کو منظور ہوا تو بہت جلد بچے یا بچی کی شادی اچھی جگہ

ہونے کا ذریعہ پیدا ہو جائے گا۔ جب بچے یا بچی کی شادی ہو جائے تو والدین کو کچھ نوافل شکرانے کے طور پر پڑھنے چاہئیں اور اللہ ﷻ سے بچی یا بچے کے لئے زندگی میں بہتری پیدا ہونے کی توفیق مانگنی چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رہے۔

Sometimes son or daughter faces plenty of problems regarding his/ her marriage. That's why their parents get tensed as well. In such situation, after Isha Prayer recite this Ayat-E-Mubarka 313 times for 40 days. Recite Darood-E-Ibrahimi 11 times in the beginning and ending then go for pray to Almighty Allah. If Almighty Allah wants then the marriage of boy or girl will be settled. When boy or girl gets married then parents should offer thankful Nawafil and pray to Almighty Allah for the successful life of their children.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ


﴿سُبْحٰنَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ

الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا یَعْلَمُوْنَ﴾

ترجمہ: ”پاک ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں

سے جنہیں زمین اُگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں
سے جن کی انہیں خبر نہیں۔“

﴿پارہ: 23، سورۃ یسین آیت: 36﴾




مریض کیلئے وظیفہ

WAZIFA FOR PATIENT

ہر قسم کے مریض کی شفا یابی اور صحت کے لئے پہلے مریض کو
وضو کروائیں اور اس کے بعد مریض کو پاک بستر پر سیدھا لٹا دیں
اور سات مرتبہ درود ابراہیمی اول و آخر پڑھیں اس کے درمیان
﴿سورۃ یسین اور سورۃ رحمن﴾ مریض کو بلند آواز سے پڑھ کر
سنائیں اس دوران اگر مریض کو نیند بھی آجائے اور وہ سو بھی
جائے تو کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ ﷻ اس عمل کے بار بار
کرنے سے مریض صحت یاب ہو جائے گا۔

For the treatment of each and every patient he should perform ablution (wazoo) then he should laid straight over clean bed and then the other person should recite Darood-E-Ibrahimi seven times in the beginning and ending and in the middle recite (Surat Yaseen & Surat

Al-Rehman) in loud volume for patient. During this practice if the patient sleeps then it does not matter as well. By following this practice again and again Insha Allah the patient will become healthy.



دین کی طرف راغب ہونے کیلئے

TO OBTAIN CONCENTRATION TOWARDS RELIGION

جو آدمی دین سے غافل ہو اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے
یا نئے افعال میں مبتلا ہو جائے تو اس کو پانی پر ﴿۱۰۱﴾ مرتبہ یہ آیت
مبارکہ پڑھ کر دم کر کے ﴿۴۱﴾ دن تک پلائیں ان شاء اللہ عزوجل
وہ شخص دین کی طرف راغب ہو جائے گا۔

If a person is not attached with religion and not following the right way of his religion then the other person should recite this Ayat-E-Mubarka 101 times over water and then it should be presented to this person for drink. Insha Allah he will obtain his concentration towards religion.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

ترجمہ: ”وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں،

اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔“

﴿پارہ نمبر 1، سورۃ البقرہ، آیت 5﴾

.....☆.....☆.....

غربت کا قرآنی علاج

QURANI TREATMENT

FROM POVERTY

غربت دور کرنے کیلئے یا کسی خاص چیز کے کھانے کی حاجت ہو

تو یہ آیت مبارکہ ﴿101﴾ مرتبہ پڑھیں اول و آخر درود ابراہیمی گیارہ

بار تلاوت کریں دُعا پوری ہونے کے بعد اللہ ﷻ کا ضرور شکر ادا

کریں۔ اس عمل کو جب تک حالات بہتر نہ ہوں جاری رکھیں۔

In order to control poverty or for the desire of any special thing to eat recite this Ayat-E-Mubarka 101 times and recite Darood-E-Ibrahimi 11 times in the beginning and ending. After completion of DUA (Pray) say many thanks to

Almighty Allah. Keep this practice continue until your circumstances becomes better.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ
تَكُونُ لَنَا عَيْدًا لِأَوْلِيَائِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ
وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾

ترجمہ: ”ہمارے رب! ہم پر آسمان سے اخوان (کھانا) اتار کہ ہمارے پہلوں اور پچھلوں کیلئے عید ہو اور تیری طرف سے نشان ہو اور ہمیں روزی دے، تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔“

﴿پارہ نمبر 7، سورۃ المائدہ، آیت نمبر 114﴾

.....☆.....☆.....

شادی کا آزمودہ وظیفہ

USEFUL WAZIFA FOR MARRIAGE

جس شخص کی اولاد کا رشتہ نہ ہوتا ہو وہ اٹھتے بیٹھتے اس آیت مبارکہ کا ورد جاری رکھے۔ بیٹی یا بیٹا خود اس آیت مبارکہ کا روزانہ تین سو تیرہ بار وظیفہ کریں وظیفہ اکیس دن تک

جاری رکھیں اول و آخر درود شریف گیارہ بار پڑھیں۔ مزید معلومات اور راہنمائی کیلئے مصنف کی کتاب اسلامی وظائف کا انسائیکلو پیڈیا کا مطالعہ کریں۔

If a person is deprived from the marriage of his children then he should recite this Ayat-E-Mubarka every time. Son or daughter should recite this Ayat-E-Mubarka 313 times and keep this practice continue for 21 days. Recite Darood-E-Ibrahimi 11 times in the beginning and ending. For further information read author's book "ISLAMI WAZAIF".


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿اَمَّنْ یُّحِبُّ الْمَضْطَّرَّ اِذَا دَعَاہُ وَ یُكْشِفُ السُّوْءَ﴾

ترجمہ: ”یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر

دیتا ہے بُرائی“

﴿پارہ نمبر 20، سورۃ النمل، آیت نمبر 62﴾



بے چینی کا حل

SOLUTION OF FRUSTRATION/
DISSATISFACTION

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ
کرب کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔

It has been proved from Hazrat Ibn-E-
Abbas رضی اللہ عنہما that Prophet Muhammad ﷺ
used to recite this dua at the time of
distress:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْجَلِيمُ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ
الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾

(صحیح بخاری و صحیح مسلم شریف)

حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ

سکھا دوں جو تم بوقت کرب کے پڑھا کرو۔ میں نے

عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ ﷺ پھر آپ ﷺ

نے ارشاد فرمایا:

Hazrat Isma Bint-E-Amees رضی اللہ عنہا says... that Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said to me that, I teach you such Kalmaat which you should recite at the time of distress/ grief/ agony.

I said Yes! Ya Rasool Allah صلی اللہ علیہ وسلم. Then Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا﴾

﴿سنن ابوداؤد﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۳

نے ارشاد فرمایا کہ:

جب کبھی مجھے کرب و بے چینی ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام

نے حاضر ہو کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھیں:

Hazrat Abu Huraira رضی اللہ عنہ says that Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said then I felt distress/ grief/ agony then Hazrat Jibrail علیہ السلام appeared and said recite:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ

يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبْرَهُ تَكْبِيرًا ﴿٤﴾

﴿حاکم﴾

۴۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دعاء کرب یہ بھی ہے۔

It has been proved from Hazrat Abu Bakar رضی اللہ عنہ this is also a dua-e-karb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى
نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي
كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ﴾

﴿ابن حبان﴾

فائدہ: ان دعاؤں کو جو شخص کرب و بے چینی میں مبتلا ہو تین بار پڑھے۔ ان شاء اللہ عزوجل پریشانی دور ہوگی اول و آخر درود شریف تین بار پڑھے۔

BENEFIT

A person who is the victim of distress/ grief/ agony should recite these DUA's three times. Insha Allah such problems will be solved recite Darood-E-Ibrahimi 3 times in the beginning and ending.

مدد اور کامیابی کیلئے

FOR HELP AND SUCCESS

مسلمانوں پر واجب ہے کہ تمام امور میں اللہ پر توکل کریں۔ اس کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کریں۔ مدد اور کامیابی اسی قوت والے کے ہاتھ میں ہے جو سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہر جائز مراد کی تکمیل کیلئے اس آیت مبارکہ کو تین سو تیرہ بار ﴿۲۱﴾ دن تک پڑھیں۔ اول و آخر درود ابراہیمی گیارہ بار پڑھیں ان شاء اللہ عزوجل جائز مراد ضرور پوری ہوگی۔

﴿پڑھنا شیر دعائیں﴾

For each and everything (work) muslims should trust over Almighty Allah and do not trust anyone else. For the accomplishment of every valid desire recite this Ayat-E-Mubarka 313 times for 21 days. Recite Darood-E-Ibrahimi 11 times in the beginning and ending. Insha Allah each and every desire/ wish will come true.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿اِذْ تَسْتَغِیْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اِنِّیْ

﴿مِمَّا كُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ﴾

ترجمہ: ”جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے

تمہاری (دُعا) قبول کر لی کہ میں تمہاری مدد کروں گا ایک

لگاتار آنے والے فرشتے سے۔“

﴿پارہ نمبر 9، سورۃ الانفال، آیت نمبر 9﴾

.....☆.....☆.....

پریشانی کے حل کیلئے دُعا

DUA FOR THE

SOLUTION OF TENSION

اگر کوئی شخص پریشانی میں مبتلا ہو اور پریشانی کسی طرح دور نہ
ہوتی ہو اور اس پریشانی کی وجہ سے طبیعت ہر وقت بے چین رہتی
ہو تو مندرجہ ذیل دعا ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھ کر پریشان شخص
اپنے لئے دُعا کرے۔

If a person is tensed and has no way out and feels distress/ dissatisfaction because of such tension recite the following DUA 3 times after every Nimaz and then pray to Almighty Allah.

اللہ ﷻ اس دعا کے طفیل پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا

اس دُعا کے بارے میں احادیثِ مبارک کی مشہور کتاب بخاری شریف میں وارد ہوا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے آپ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کرب کے وقت حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس دُعا کو پڑھا کرتے تھے۔

Allah Almighty will solve his tensions it has also been described in a famous book of hadith Bukhari Shareef that Ibn-E-Abbas رضی اللہ عنہما proved that Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم used to recite this DUA at the time of agony/ distress/ grief.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾

﴿صحیح بخاری شریف﴾

ترجمہ: ”نہیں کوئی معبود سوائے اللہ عظیم و بزرگی والے

حلیم و بردبار کے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ عظیم کے جو

آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور رب ہے عرشِ عظیم کا۔“

.....☆.....☆.....

غم سے نجات کیلئے

FOR THE SURVIVAL OF SORROW

جو شخص ہر صبح و شام یہ کلمات سات سات مرتبہ پڑھے گا
اللہ اس کو دنیا و آخرت کے غم سے نجات دے گا۔ اول و آخر
درود ابراہیمی تین بار پڑھے۔

﴿شرح اسماء الحسنى﴾

If a person recites these Kalmaat 7 times in morning and evening then he will get satisfaction from sorrows of this world and next world (eternal life). Recite Darood-E-Ibrahimi 3 times in the beginning and ending.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ

تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ﴾

﴿پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 129﴾



مسائل اور مشکلات کا حل

SOLUTION OF TENSIONS AND PROBLEMS

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم کو جب کوئی فکر و غم ہوتا تو

آپ رضی اللہ عنہ یہ کلمات کہتے۔

Whenever Hazrat Ibn-E-Masood رضی اللہ عنہم faces any tension then he used to recite these Kalmaats:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ﴾

﴿ترمذی، نسائی، حاکم﴾

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ فرمایا جناب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی بندہ غم و فکر کے وقت

یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ اس کے فکر کو دور کر دیتا ہے۔

It has been proved from Hazrat Ibn-E-Masood رضی اللہ عنہم that Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said whenever a person faces tensions then he should recite this DUA. Then Almighty Allah will solve his tensions.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ
اَمَّتِكَ نَاصِیْتِیْ بِیْدِكَ مَاضٍ فِیْ حُكْمِكَ
عَدْلٍ فِیْ قَضَاؤُكَ اَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ
لَكَ سَمَّیْتَ بِهِ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِیْ
كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ
اَوْ سَتَاثَرْتَ بِهِ فِیْ عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَكَ اَنْ
تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِیْعَ قَلْبِیْ وَنُوْرَ
صَدْرِیْ وَجَلَاءَ حُزْنِیْ وَ زَهَابَ هَمِّیْ﴾

﴿حسن المسلم من: ۱۰۳، مسند احمد ۱/۳۹۱﴾

.....☆.....☆.....

ننانوے بیماریوں کا علاج

TREATMENT OF 99 DISEASES

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص یہ پڑھے:

It has been proved from Hazrat Abu
Huraira رضی اللہ عنہ that whoever person recite
this:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ﴾

اس کو ننانوے امراض سے شفا ہوتی ہے۔ جس میں سب

سے ادنیٰ غم ہے۔

﴿حاکم، طبرانی﴾

He will get the treatment of 99 diseases in which the lowest is sadness/ distress/ unhappiness.

.....☆.....☆.....

بیٹی کی شادی کیلئے وظیفہ

WAZIFA FOR THE MARRIAGE OF DAUGHTER

اگر کسی لڑکی کیلئے رشتہ نہ آتا ہو یا آتا ہو لیکن پسند نہ آتا ہو تو اس مقصد کیلئے آپ روزانہ وقت اور جگہ کی پابندی کے ساتھ اول و آخر درود ابراہیمی گیارہ بار پڑھیں اور درمیان میں ﴿۵۰۰﴾ مرتبہ اس آیت کو اور تین مرتبہ سورۃ الضحیٰ کو پڑھیں اکتالیس دن تک یہ وظیفہ کریں ان شاء اللہ عزوجل اسی عرصے میں اچھا رشتہ ہونے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔

If there are some problems in the marriage of daughter or offer comes but she does not like such offers. Then recite this Ayat 500 times and (Surat Al-Zaha) 3 times for 41 days and recite Darood-E-Ibrahimi 11 times in the beginning and ending. Keep this practice continue for 41 days. Insha Allah during this period of time such problems will be solved.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿رَبِّ اِنِّیْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیْرٌۙ﴾

ترجمہ: ”اے میرے پروردگار! بیشک جو نعمت تو میری طرف

اتارے، میں اس کا محتاج ہوں۔“

﴿پارہ نمبر 20، سورۃ القصص، آیت نمبر 24﴾

.....☆.....☆.....

امیر ہونے کا وظیفہ

WAZIFA FOR RICHNESS

اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ نسل در نسل امیر رہے اور اس کی دولت کسی صورت میں ختم نہ ہو بلکہ بڑھتی رہے تو اس کے لئے یہ عمل بہت موثر اور پُر تاثیر ہے۔ عمل یہ ہے کہ بعد نماز فجر با وضو ﴿سورۃ بقرہ﴾ مکمل سورت روزانہ بلا ناغہ پڑھتا رہے۔

ان شاء اللہ دولت آنی شروع ہو جائے گی اور اس کا سلسلہ
نسل در نسل چلے گا۔ اول و آخر درود ابراہیمی اکیس بار لازمی پڑھیں
اور دولت کو بھی نیک کاموں میں خرچ کریں۔

﴿تلمی بیاض از حکیم یاسین رضی اللہ عنہ﴾

If a person wants to become rich and desires plenty of wealth for his next generation then this practice is so much beneficial for him. Recite complete (Surat Baqra) after Fajar Prayer daily. Insha Allah wealth will start to come and the same sequence will continue for his next generation. Must recite Darood-E-brahimi 21 times in the beginning and ending and spend wealth for good work.

.....☆.....☆.....

دولت کیلئے وظیفہ

WAZIFA FOR WEALTH

بارہا تجربہ کیا گیا ہے کہ ان کلمات ذیل کو با وضو قبلہ رو ہو کر
وقت کے اندر روزانہ صبح کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سو
مرتبہ پڑھنا انسان کو بہت جلد مالدار بنا دیتا ہے۔ یہ بھی لازم
ہے کہ ان کلمات کے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی درود
شریف جو یاد ہو پڑھ لینا چاہئے۔

It has been experienced again and again that these Kalmat can make a man wealthy in a very short time. This practice must be done in the situation of ablution (Ba-Wazoo) and towards the right direction of Kibla and in the right time of Morning Prayer during Sunnat and Farz Nimaz. It is also compulsory to recite any Darood Shareef (whatever you remember) 11 times in the beginning and ending.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ
اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ﴾

.....☆.....☆.....

کند ذہن بچے کیلئے وظیفہ

WAZIFA FOR

WEAK MINDED CHILD

اگر کند ذہن بچے کو یا طالب علم کو سبق یاد نہ ہوتا ہو تو اس

آیات مبارکہ کو ﴿۳۱۳﴾ مرتبہ پانی پر دم کر کے روزانہ پلائیں

اول و آخر درود ابراہیمی گیارہ بار پڑھیں۔ ان شاء اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی برکت سے بچے کا کند ذہنی کا مرض جاتا رہے گا اور جو بھی سبق وہ یاد کرے گا ان شاء اللہ عَزَّوَجَلَّ اُسے یاد رہے گا۔

If a child's mind is weak and fails to remember his task then recite this Ayat-E-Mubarka 313 times over water and use it daily for drink. Recite Darood-E-Ibrahimi 11 times in the beginning and ending. Insha Allah child will improve his mind and whatever task would be given to him he will successfully complete such task.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۖ وَكَانَ

فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝﴾

ترجمہ: ”اور آپ ﷺ کو سکھایا جو آپ ﷺ

نہ جانتے تھے اور آپ ﷺ پر اللہ کا بڑا

فضل ہے۔“



دشمن سے چھٹکارے کیلئے وظیفہ


WAZIFA FOR THE SURVIVAL OF ENEMY

اگر کسی شخص کے پیچھے دشمن لگ گیا ہو اور اُسے ہر وقت اس سے خطرہ رہتا ہو کہ جان کا نقصان ہو جائے گا یا مال کا تو اس سے پیچھا چھڑانے کے لئے ذیل کا عمل بے حد مجرب ہے اس مقصد کے لئے نماز ظہر کے بعد ایک مرتبہ با وضو ﴿سورہ یوسف﴾ مکمل پڑھ کر دشمن کو تصور میں لا کر دم کریں اور یہ عمل گیارہ دن تک کریں اور گیارہویں دن ﴿سورہ یوسف﴾ کو تین بار پڑھیں اور دشمن کا نام لیں کہ وہ دشمنی سے باز آ جائے اور وہ مجھے نقصان نہ پہنچا سکے اور وہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ ان شاء اللہ ﷻ دشمن مغلوب ہوگا اور شرارت اور دشمنی سے باز آ جائے گا۔

﴿از منقول: مولانا شفیق رام پوری مدظلہ﴾

If a person has fear of his life/ wealth from his enemy or wants to save his wealth from enemy then the following wazifa is so much beneficial. For such purpose recite complete (Surat Yousaf) after Zohar Prayer and think about your

enemy. Keep this practice continue for 11 days and recite (Surat Yousaf) 3 times on last day. Insha Allah he will completely be secured from his enemy.



ہزار حاجت کیلئے وظیفہ

WAZIFA FOR 1000 NEEDS/

WANTS(HAJAT)

دو رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد اول رکعت میں سورۃ الکافرون دس مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص دس مرتبہ پڑھیں بعد سلام سجدہ میں جا کر دس بار درود ابراہیمی پڑھیں اور دس مرتبہ تیسرا کلمہ تجید پڑھیں اور دس مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور اپنی حاجت کا ذکر کریں۔

Recite two Rakat Nimaz in first Rakat recite (Surat Al-Kaferoon) 10 times after (Surat Fatiha) and in second Rakat recite (Surat Ikhlas) 10 times after (Surat Fatiha) the go for Salam-E-Sajda and recite Darood-E-Ibrahimi and third kalma ten times. After this recite this Dua 10 times and mention your needs/wants.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

﴿پارہ ۲ سورہ بقرہ آیت نمبر: ۲۰۱﴾

.....☆.....☆.....

بتنگی دور کرنے کیلئے وظیفہ

WAZIFA FOR CONTRACTION

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ:
”جو شخص بکثرت استغفار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی
سے نجات دیتا ہے۔ ہر فکر سے آزادی دیتا ہے، اور غیر متوقع
اسباب سے رزق عطا کرتا ہے“

﴿ابوداؤد، نسائی﴾

Hazrat Ibn-E-Abbas رضی اللہ عنہما said (anecdote) that, whoever person recite Astaghfar plenty of times then Almighty Allah blessed upon him and he becomes free from contractions and gets unexpected sources of income.

.....☆.....☆.....

اولاد کی فرمانبرداری کیلئے

FOR THE COMPLIANCE/ OBEDIENCE OF CHILDREN

اولاد کی فرمانبرداری کیلئے ان آیات مبارکہ کو روزانہ صبح و شام
اکتالیس بار پڑھ کر اولاد کے اوپر دم کریں اول و آخر درود
ابراہیمی گیارہ بار تلاوت کریں۔ ان شاء اللہ عزوجل اس عمل سے
اولاد فرمانبردار ہو جائے گی۔

For the obedience/ compliance of children recite these Ayaat-E-Mubarka 41 times in morning and evening over children. Recite Darood-E-Ibrahimi 11 times in the beginning and ending. Insha Allah children will become obedient.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿رَبِّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي
أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ
صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي
تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

ترجمہ: ”اے میرے رب! مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت

کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی اور میرے

ماں باپ پر اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند

کرے اور میرے لئے میری اولاد میں اصلاح کر

دے، بیشک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بیشک میں

فرمانبرداروں میں سے ہوں۔“

﴿پارہ نمبر 26، سورۃ الاحقاف، آیت نمبر 15﴾

.....☆.....☆.....

ہفت روزہ وظائف

WEEKLY WAZAIF

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے فتوح و برکت

حاصل نہیں ہوئی مگر ان اوراد سے وہ یہ ہیں کہ:

Hazrat Imam Ghazali رحمۃ اللہ علیہ said that I could not get blessings and success. But because of this practice that is:

☆..... جمعۃ المبارک کے دن ایک ہزار بار ﴿يَا اَللّٰهُ﴾ پڑھا

جائے۔

Recite ﴿يَا اَللّٰهُ﴾ 1000 times on Friday.

☆..... ہفتہ کے دن ایک ہزار بار ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ پڑھا جائے۔

Recite ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ 1000 times on

Saturday.

☆..... اتوار کے دن ایک ہزار بار ﴿يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ﴾ پڑھا جائے۔

Recite ﴿يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ﴾ 1000 times on

Sunday.

☆..... پیر کے دن ایک ہزار بار ﴿درود شریف﴾ پڑھا جائے۔

Recite (Drood Shareef) 1000 times on

Monday.

☆..... منگل کے دن ایک ہزار بار ﴿لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ﴾ پڑھا جائے۔

Recite ﴿لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ﴾

1000 times on Tuesday.

☆..... بدھ کے دن ایک ہزار بار ﴿أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمِ﴾

پڑھا جائے۔

Recite ﴿أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمِ﴾ 1000 times

on Wednesday.

☆..... جمعرات کو دن ایک ہزار بار ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ﴾

پڑھا جائے۔

Recite ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ﴾ 1000

times on Thursday.

ان اعمال کو پڑھنے سے ہر قسم کی فتوحات و برکات حاصل ہوں
گی۔ مجرب و طائف ہیں۔ اول و آخر درود ابراہیمی کا اہتمام کریں۔

﴿ازمنقول: نخبہ الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ﴾

By following aforesaid practice you will get success and blessings. These are useful wazaif recite Darood-E-Ibrahimi in the beginning and ending.

امتحان میں کامیابی کیلئے

FOR THE SUCCESS IN EXAMS

امتحان میں کامیابی اور آسان پرچوں کیلئے اس وظیفہ کو امتحان
گاہ میں جانے سے پہلے ﴿۱۰۱﴾ مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ اول و آخر
درود ابراہیمی سات بار پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیں جب تک
امتحان جاری رہیں وظیفہ کو جاری رکھیں۔ ان شاء اللہ عَزَّوَجَلَّ اچھی
پوزیشن آئے گی۔

For the success in exams and for easy papers recite this Wazifa 101 times before going to examination hall. Recite Darood-E-Ibrahimi 7 times in the beginning and ending. Keep this practice continue until your exams. Insha Allah you will get good position.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ۗ هُوَ الَّذِیْ اٰتٰكَ

بِنَصْرِهِ وَاَلْمُؤْمِنِیْنَ ۝﴾

ترجمہ: ”پس بیشک تمہارے لئے اللہ کافی ہے، وہ جس

نے تمہیں اپنی مدد سے اور مسلمانوں سے زور دیا۔“

﴿پارہ نمبر 10، سورۃ الانفال، آیت نمبر 62﴾

.....☆.....☆.....

کالے جادو کا توڑ

RETALIATION AGAINST

BLACK MAGIC

آج کل اکثر گھروں دکانوں پر یہ شکایت عام ہے کہ گھر سے تعویذ نکلتے ہیں بال نکلتے ہیں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں گھر میں اتفاق نہیں میاں اور بیوی میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے بچوں میں چھوٹی چھوٹی بات پر ناراضگی ہو جاتی ہے بچوں کے

رشتے نہیں آتے اگر آتے ہیں تو بغیر کسی وجہ کے بات بھی نہیں بنتی اولاد نافرمان ہے وغیرہ وغیرہ تو ایسی صورت میں گھر کی عجیب صورت حال ہو جاتی ہے اس پریشانی سے نجات کے لئے ذیل کا یہ عمل بارہا مرتبہ کا آزمودہ ہے۔ ان شاء اللہ عَزَّوَجَلَّ اس عمل سے ہر قسم کی بندش جادو و سحر و آسیب سے مکمل طور پر نجات حاصل ہوگی۔ یہ عمل جمعہ مبارک کے دن نماز فجر کے بعد با وضو ہو کر اکتالیس ﴿۴۱﴾ بار مندرجہ ذیل آیت مبارکہ اور اول و آخر درود شریف ﴿۱۱-۱۱﴾ بار پڑھ کر گھر کے چاروں طرف دم کریں اس وظیفہ کو اکیس ﴿۲۱﴾ دن تک بغیر کسی ناغے کے جاری رکھیں۔ نیز لوح حصار بنوا کر پاس رکھیں۔

﴿روحانی علاج باب جادو کا مستند علاج﴾

Nowadays some of the people have become victim of black magic. Because of this extreme magic several problems occurs. For the survival of this magic this practice is so much useful. By following this practice Insha Allah you will get benefit from each and every problem. This practice must be done on Friday after Fajar Prayer (in ablution "Ba-Wazoo-Halat-Mein) 41 times over all corners of house. Recite Darood-E-

Ibrahimi 11 times in the beginning and ending and keep this wazifa continue for 21 consecutive days. And make LOH-E-HISAR for yourself and keep it all the time.


آیت مبارکہ یہ ہے:

Ayat-E-Mubarka is:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿اِنَّهُمْ یَكْفُرُوْنَ كِیْدًا وَّ اَكِیْدُ كِیْدًا۝ فَمَهْلُ الْكٰفِرِیْنَ اَمْهَلُهُمْ رُوْیْدًا۝﴾

﴿پارہ ۳۰ سورۃ الطارق آیت نمبر ۱۵/۱۷﴾



جادو اور جنات کا علاج

TREATMENT OF MAGIC AND GHOSTS

جس گھر میں آسیب کا قبضہ ہو یا ویسے ہی شریر جنات آتے رہتے ہوں اور گھر والوں کو تنگ کرتے ہوں پتھر پھینکتے ہوں اور آگ دکھاتے ہوں تو اس کا مفید اور بارہا مرتبہ کا آزما یا ہو علاج یہ ہے کہ چار عدد کیلیں لے لیں اور ان میں سے ہر ایک کیل پر پچیس مرتبہ ﴿آیت الکرسی﴾ اور تین بار یہ آیت پڑھ کر دم کریں:

If in a house ghosts used to come and throw stones, show fire and create problems for the resident people then this practice has been experienced several times and useful as well. For this take four screws (keel) and recite (Ayat-Ul-Kursi) 25 times and this Ayat 3 times over each screw (Keel)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿اِنَّهُمْ يَكْتُمُوْنَ كَيْدًا ۝ وَ اَكْتُمُ كَيْدًا ۝ فَمَهْلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهَلُهُمْ رُوَيْدًا ۝﴾

﴿پارہ ۳۰ سورۃ الطارق آیت نمبر: ۱۵/۱۷﴾

اور متاثرہ مکان یا دکان یا کوئی اور جگہ جس میں اثر ہو وہاں کے چاروں کونوں میں ایک ایک کیل لگا دیں ان شاء اللہ عَزَّوَجَلَّ اس عمل کی برکت سے آسیب و جادو سے مکمل طور پر نجات ہوگی۔
آزمودہ ہے۔

﴿تردید سحر و آسیب﴾

And place each screw (Keel) at every affected place. Insha Allah you will get benefit from this practice. This is useful:

.....☆.....☆.....

انمول و طائف

RARE/ PRICELESS WAZAIF

دافع بلیات، حل مشکلات، رہائی از قید، واپسی مفقود الخیر ترقی
عہدہ مصیبت سے نجات، ادائیگی قرض، امتحان میں کامیابی،
خوشحالی، کثادگی و فراخی رزق بچوں کی شادی کے لئے اس وظیفہ کو
اس طرح کریں کہ نیا چاند نظر آنے پر اس کی اگلی رات بعد نماز
عشاء ذیل کی ترکیب سے سات یوم تک عمل مکمل کریں۔

For every tension, freedom, progress, problems, success in exams, prosperity, for the expansion of income and for the marriage of children use this wazifa. The procedure of this wazifa is that, in the next night of new moon after Isha Prayer complete the practice within 7 days.

پہلی رات..... اول و آخر دو دبر ایسی ہی گیارہ مرتبہ اور

First Night: Darood-E-Ibrahimi 11 times in the beginning and ending and

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

تین سو تیرہ ﴿۳۱۳﴾ بار پڑھیں۔

Recite 313 times.

دوسری رات..... اول و آخر درود ابراہیمی گیارہ مرتبہ اور

Second Night: Darood-E-Ibrahimi 11 times in the beginning and ending and

﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

تین سو تیرہ ﴿۳۱۳﴾ بار پڑھیں۔

Recite 313 times.

تیسری رات..... اول و آخر درود ابراہیمی گیارہ مرتبہ اور

Third Night: Darood-E-Ibrahimi 11 times in the beginning and ending and

﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾

تین سو تیرہ ﴿۳۱۳﴾ بار پڑھیں۔

Recite 313 times.

چوتھی رات..... اول و آخر درود ابراہیمی گیارہ مرتبہ اور

Fourth Night: Darood-E-Ibrahimi 11 times in the beginning and ending and

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

تین سو تیرہ ﴿۳۱۳﴾ بار پڑھیں۔

Recite 313 times.

پانچویں رات..... اول و آخر درود ابراہیمی گیارہ مرتبہ اور

Fifth Night: Darood-E-Ibrahimi 11 times in the beginning and ending and

﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

تین سو تیرہ ﴿۳۱۳﴾ بار پڑھیں۔

Recite 313 times.

چھٹی رات..... اول و آخر درود ابراہیمی گیارہ مرتبہ اور

Sixth Night: Darood-E-Ibrahimi 11 times in the beginning and ending and

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾

تین سو تیرہ ﴿۳۱۳﴾ بار پڑھیں۔

Recite 313 times.

ساتویں رات..... اول و آخر درود ابراہیمی گیارہ مرتبہ اور

Seventh Night: Darood-E-Ibrahimi 11 times in the beginning and ending and

﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

تین سو تیرہ ﴿۳۱۳﴾ بار پڑھیں۔

Recite 313 times.

ہر روز وظیفہ کے اختتام پر اپنی حاجت بیان کریں اور دعا

نہایت عاجزی اور انکساری سے مانگیں۔

At the end of every wazifa pray for your need/ wish (Hajat) with full of humbleness.

مندرجہ بالا طریقہ سے ایک ہفتہ کی زکوٰۃ مکمل کرنے کے بعد

روزانہ ہر نماز کے بعد ﴿۱۱﴾ مرتبہ ﴿سورۃ فاتحہ﴾ کی تلاوت کر کے دعا مانگتے رہیں۔ اللہ نے چاہا تو بہت جلد کامیابی نصیب ہوگی۔ مزید راہنمائی کیلئے مصنف سے رجوع کریں۔

﴿قلمی بیاض حکیم شان احمد صابری رحمہ اللہ﴾

After the completion of first week's Zakat recite (Surat Fatiha) 11 times after every Nimaz and then go for pray. If Almighty Allah wants then you will get success shortly. For additional information contact to Arthur:

.....☆.....☆.....

سر درد کے لئے بہترین عمل

BEST PRACTICE FOR HEAD PAIN

اگر کسی کے سر میں درد ہو اور سر درد کی وجہ سے آرام نہ آتا ہو تو سوتی کپڑا لے کر اس کے چھوٹے چھوٹے تین ٹکڑے کریں اور ہر ٹکڑے پر با وضو ﴿سورۃ الفیل﴾ ایک مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ پھر ایک مرتبہ ﴿سورۃ الفیل﴾ پڑھ کر دوسرے ٹکڑے پر دم کریں اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الفیل پڑھ کر تیسرے ٹکڑے پر دم کریں۔ اب ایک ٹکڑا لے کر اس کو پانی میں ڈالیں اور مریض کو پانی پلائیں اس طرح تین دن عمل کریں ان شاء اللہ مریض بہا

ہی دن فائدہ محسوس کرے گا اور تین دن کے عمل سے سر کا درد غائب ہو جائے گا۔ یہ عمل اس وقت کریں جب ساری تدبیریں ناکام ہو چکی ہوں۔

If any person feels pain in head and does not get satisfaction then take cotton and divide it into three pieces. Recite (Surat Feel) over each piece of cotton. This must be done in the situation of ablution (Wazoo). Then take first piece and inhale it in the water and give this water to the patient. Similarly, keep this practice continue for three days Insha Allah patient will feel satisfaction for first day. Perform this practice when all other solutions became unsuccessful. (Suat Feel) is:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِئِلِ ۝
اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝ وَاَرْسَلَ
عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيلَ ۝ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ
سِجِّيلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُوِلٌ ۝﴾

﴿پارہ ۳۰ سورہ فیل﴾

شرف ستارگان کی الواح

Alwah of Sharf-E-Sitargan

اپنے نام یا ستارے کے مطابق لوح بنوا کر کامیاب زندگی بسر کریں!

Prepare wazaif-o-naqsh or loh according to your name or star and spend a successful life.

لوح شرف مشتری

Loh-E-Sharf-E-Mushtari

مالی خوش بختی۔ حصول دولت آمدنی کے مختلف ذرائع کو ترقی دینا انعامی اسکیموں میں فائدہ، مستقبل کی بہتری کیریئر اور ترقی کے استحکام کیلئے لوح مشتری بنوا کر پاس رکھیں۔

Financial gratification – For wealth, progress in different sources of income, profit in voluntary (inami) schemes and progress in career make Loh-E-Mushtri and keep it with you.

لوح شرف زحل

Loh-E-Sharf-E-Zahal

کاموں میں رکاوٹ، جائیداد کے تنازعات پرانے امراض ضدی امراض نحوست جادو و آسیب سے نجات، دشمن سے حفاظت کیلئے بنوا کر پاس رکھیں۔

For obstructions in work, property disputes, old disease and for the survival of magical effects and enemy keep it with you.

لوح شرف سبع ستارگان

Loh-E-Sharf Saba Sitargan

سات ستاروں کی یکجا لوح خیر و برکت مالی خوش بختی تنخیر خلق مرد اور عورتوں کے پرانے امراض شادی میں تاخیر اور رکاوٹ علمی ترقی۔ تعلیم میں کامیابی، گھریلو پریشانیوں سے نجات اور ہر کام کیلئے لوح سبع ستارگان بنوا کر پاس رکھیں۔

Combination of seven stars loh, prosperity, financial comfort, old problems of men and women, obstructions in marriage, success in exams, safety from domestic tensions and for every other purpose keep loh-e-sharf saba sitargan with you.

لوح رشتہ

Loh-E-Rishta

بچوں کی شادی میں تاخیر، شادی نہ ہوتی ہو یا ہو کر ٹوٹ جاتی ہو نیز بچوں میں پیار و محبت کیلئے اور جلد نیک رشتہ کے اسباب کیلئے لوح صالحہ رشتہ بنوا کر پاس رکھیں۔

Delay in children marriage, if marriage is not settled, In fact to create

love among children and for the purpose of early marriage make loh-e-saliha rishta and keep it with you.

لوح شرف مرتخ

Loh-E-Sharf Mareekh

دل کی گھبراہٹ، ڈپریشن مردانہ امراض خواتین کے امراض، خون کی کمی آسیب سے نجات افسران بالا کی توجہ اور رجوع خلق کیلئے لوح مرتخ بنوا کر پاس رکھیں۔

Heart purpling, depression, male diseases, female diseases, deficiency in blood, survival from magical effects (aasaib), least concentration of higher authorities for Rajoo-E-Khalq make loh-e-mareekh and keep it with you.

لوح شفاء

Loh-E-Shifa

نظر بد و جادو۔ مرگی اور درد سر اور ڈراؤنے خواب و آسیب و سایہ سے نجات کیلئے اور ہر امراض میں بہتری کیلئے لوح شفاء بنوا کر پاس رکھیں۔

Evil eye or magic, mirgi or head pain, for the survival of horror dreams and for all other dilemmas make loh-e-shifa and keep it with you.

لوح عطارو

Loh-E-Atard

علمی ترقی حافظے میں اضافہ تعلیم میں کامیابی یا داشت اور باغبانی کیلئے اور روحانی علوم اور ٹرانسپورٹ تجارت اور کمیونیکیشن سے منسلک افراد کیلئے بنوا کر پاس رکھیں۔

Progress in education, to enhance the memory, success in exams, prosperity, spiritual knowledge, transport, trade and for communication make loh-e-attard and keep it with you.

رابطہ کے لئے مندرجہ ذیل پتہ پر خط و کتابت اور ٹیلی فون کریں۔

Contact us on the following addresses through letter or call:

سید زیشان نظامی عفی عنہ

Syed Zeeshan Nizami




نزد انکم ٹیکس آفس سول لائن جہلم (پاکستان)

Near Income Tax Office, Nizami
House Civil Lines, Jhelum.(Pakistan)

0300-5421086-----0544-623643



ہماری کتابیں، بیماری کتابیں



PUBLISHED BY GUILF TURKISH PUBLISHERS

دعا الہی کی شکر

الحمد لله رب العالمین
 042-37769585 (فون)
 Email: duapublication@yahoo.com



Rs. 200/-